



سفر آخرت

آداب و مسائل



اظہارِ تشکر

شعبۂ اشاعت کتاب ”سفرِ آخرت“ کی اشاعت میں قلمی و مالی تعاون کرنے پر محترمہ امة الرشید محمد حسین صاحبہ کا شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص، مال اور نفوس میں برکت عطا فرمائے۔

قارئین کرام سے ان کے بزرگ والد مکرم و محترم صوفی عبد القدیر صاحب بدو ملہوی (درویش قادیان) ابن مکرم و محترم مولوی عبدالحق صاحب بدو ملہوی کے لئے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور اپنے احسان سے ان کی قربانیوں کا ثمران کی نسلوں کو عطا فرماتا رہے۔ آمین

بجز اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء فی الدارین خیراً

(صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لئے)

سفرِ آخرت

آداب و مسائل



پیش لفظ

بشن تشکر کے سلسلے کی اکہترویں

کتاب شائع کرنے کی توفیق پارہی ہے۔ الحمد للہ

محترمہ ائمۃ الرشید محمد حسین صاحبہ مرتبہ کتاب ”سفر آخرت“ نے وسیع مطالعہ اور محنت سے حیات سے ممات تک کا سفر اور اس میں درپیش مسائل کو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور حضرت اقدس مسیح موعود اور خلفائے کرام کی تحریروں سے جمع کر کے گراں قدر خدمت سرانجام دی ہے۔ جزاھا اللہ تعالیٰ احسن الجزا

بہت سے مسائل جو اس تعلق سے ذہنوں میں ابھرتے تھے حل ہو گئے ہیں قارئین کے لئے انڈیکس کی مدد سے اپنے سوال کا جواب پالینا آسان ہو گیا ہے۔ قارئین کرام سے استدعا ہے کہ اس کتاب سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ اپنے حلقہ احباب سے بھی متعارف کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر فرمائے۔ ہم اس حالت میں اُس کے حضور پیش ہوں کہ راضیۃ مرضیۃ کا مقام حاصل ہو۔ آمین

اور ان کی معاونات ہماری خصوصی دعاؤں کی مستحق ہیں جن کی

کاوشوں سے علوم کے ذخیرے ہم تک پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی جزا
بن جائے۔ آمین اللهم آمین

عرضِ حال

صد شکر اُس خدائے عزوجل کا جو اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمہ وقت جلوہ افروز ہے کہ مجھ عاجز بندی کو چھوٹی سی خدمت کی توفیق دی اُس کے احسان تو اس قدر ہیں کہ میری جبین ہر لحظہ سجدہ شکر بجالاتی ہے مگر میں کمزور بندی شکر گذاری کا سلیقہ بھی نہیں جانتی وہ زبانِ حال کی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

نثر و نظم میں اپنے فضل الہی اور اپنے ذوق کے مطابق نظم و نثر میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہوں حلقے کی بچیوں کو مضمون و تقاریر بھی لکھ دیتی ہوں اپنا پہلا مجموعہ کلام ”اسرار ہدیٰ“ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایۃ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں بھیجا تو اس کے ساتھ اپنا ایک خواب بھی لکھا کہ ”میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں دائیں طرف صوفہ پر میرے شوہر محمد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کہتے ہیں دیکھو تو کون آیا ہے سلام کرو۔ میں دیکھتی ہوں تو حضور تشریف فرما ہیں میں سلام کرتی ہوں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میں مصافحہ کرتی ہوں اور عقیدت سے بالکل جھک جاتی ہوں آپ نے ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے کھڑا کر دیا اور گرنے نہیں دیا“

حضور پر نور نے کتاب اور خواب ملاحظہ فرما کر تحریر فرمایا ”بہتر ہے آپ نثر لکھیں“ میں نے یہ سارا ماجرا محترمہ آپا سلیمہ میر صاحبہ کو سنایا تو آپ نے مجھے باری آپا سے ملوادیا انہوں نے مجھے عنوان دیا اور کتب بتائیں کہ ان میں سے مواد جمع کر کے حوالوں کے ساتھ ترتیب سے لکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری محنت ان کو پسند آئی اور اب قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لئے تہ دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت اور قرب عطا فرمائے۔ آمین

سفر آخرت

صفحہ نمبر	مندرجات	نمبر شمار
۱۳ موت برحق ہے	۱
۱۳ مرنے والے دنیا کی طرف زندہ کر کے کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے ...	۲
۱۳ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے	۳
۱۴ موت کو ہمیشہ یاد رکھو	۴
۱۵ بعثت بعد الموت	۵
۱۵ دنیا کی تلخیاں اور بے ثباتی	۶
۱۶ دنیا فنا کا مقام ہے	۷
۱۶ موت تبدیلی کا مکان ہے	۸
۱۶ موت ایک مرکب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتا ہے	۹
۱۷ موت دونوں جہانوں کو جدا کرنے والا پردہ ہے	۱۰
۱۸ موت دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ ہے	۱۱
۱۹ نزع کے وقت پڑھنے کی دعائیں	۱۲
۱۹ دم مرگ خیر کے کلمات کے سوا دوسری باتیں نہ کی جائیں	۱۳
۲۰ میت کو غسل دینے کا طریق	۱۴
۲۱ طاعون زدہ کے غسل اور کفن کے بارے میں حکم	۱۵
۲۱ میت کو کفن پہنانے کا طریق	۱۶
۲۲ تجہیز و تکفین میں سادگی	۱۷

۲۳	تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا	۱۸
۲۳	نماز جنازہ کا طریق	۱۹
۲۴	نماز جنازہ کی مسنون دعائیں	۲۰
۲۶	نابالغ لڑکے کا جنازہ	۲۱
۲۶	نابالغ لڑکی کا جنازہ	۲۲
۲۷	نماز جنازہ میں چار سے زیادہ تکبیریں	۲۳
	جنگ میں بہت سے فوجیوں کی شہادت اور ریزہ ریزہ ہو جانے	۲۴
۲۸	کی صورت میں نماز جنازہ اور قبر کے بارے میں حکم	۲۸
۲۸	جنازہ جب جائے تو تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہئے	۲۵
۲۸	جنازہ اٹھاتے وقت میت کا سر کس طرف ہونا چاہئے	۲۶
	کسی عورت کی وفات پر دوسری عورت کا موجود نہ ہونا، مرد کی وفات	۲۷
۲۹	پر کسی دوسرے مرد کے موجود نہ ہونے پر غسل و نماز جنازہ	۲۹
۳۰	غیر مسلم کی وفات اسلامی معاشرے میں	۲۸
۳۰	نماز جنازہ جو تیوں سمیت اور ننگے سر پڑھنے کے بارے میں	۲۹
۳۱	نماز جنازہ کا وقت	۳۰
۳۱	پھانسی پانے والے شخص کی نماز جنازہ	۳۱
۳۱	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ	۳۲
۳۲	جنازہ غائب	۳۳
۳۳	نماز جنازہ کی تکرار	۳۴
۳۳	نماز جنازہ حاضر یا غیب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شمولیت	۳۵
۳۴	مسجد میں میت رکھ کر نماز جنازہ ادا کرنا	۳۶

۳۶	قبر کی تیاری اور اندازِ تدفین	۳۷
۳۷	قبروں پر پڑھنے کی مسنون دعائیں	۳۸
	حضرت مسیح موعود کی تدفین کے متعلق حضرت بھائی عبدالرحمن قادیانی	۳۹
۳۷	کی روایت	
۳۸	تدفین کے بعد نعش ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانا	۴۰
۳۹	دین حق میں میت کا احترام	۴۱
۴۲	وفات پر تعزیت	۴۲
۴۳	صبر کے بارے میں قرآنی ارشاد	۴۳
۴۳	صبر وہ ہے جو صدمے کی ابتدائی حالت میں کیا جائے	۴۴
۴۴	آنحضرتؐ کی وفات پر صحابہؓ کی بے قراری اور فرطِ غم	۴۵
۴۶	مومن وہی ہے جو آپؐ کی اتباع کرے	۴۶
۴۶	صابر و شاکر بندے کے لئے جنت میں گھر	۴۷
۴۷	لحّت جگر کی وفات پر رحمت اور شفقت کے آنسو	۴۸
	دستی بیعت کرنے والی صحابیہ کا ماتم کے وقت صبر کا آنحضرتؐ کی	۴۹
۴۷	خدمت میں عہد	
۴۸	صبر کا بہترین بدلہ	۵۰
۴۸	صبر کی فضیلت	۵۱
۵۰	اللہ تعالیٰ کی امانت	۵۲
۵۱	اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نتائج کو بھلا دینا چاہیے	۵۳
	تمام احمدی خواتین کیلئے صبر و رضا کا بہترین نمونہ حضرت مسیح موعود	۵۴
۵۲	کی زوجہ محترمہ سیدہ نصرت جہاں بیگم	

۵۳	صبر و رضا کے ایمان افروز واقعات	۵۵
۵۵	تعزیت کے موقع پر غیر شرعی رسوم کی مذمت	۵۶
۵۷	بعد وفات میت کو کیا شے پہنچتی ہے	۵۷
۵۷	میت کے لئے ختم اور فاتحہ خوانی	۵۸
۵۷	میت کے نام پر قبرستان میں کھانا تقسیم کرنا	۵۹
۵۸	جس کے ہاں ماتم ہو اُس کے ساتھ ہمدردی	۶۰
۵۸	میت کے لئے دعا	۶۱
۵۸	میت پر رنگدار کپڑے اور پھول ڈالنا پسندیدہ نہیں	۶۲
۵۸	مردے کا اسقاط	۶۳
۵۹	میت کے قفل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں	۶۴
۵۹	نماز جنازہ کسی ایسے متوفی کا جو بالجبر ملکر اور مکذب نہ ہو	۶۵
۵۹	کیا میت کو صدقہ خیرات اور قرآن شریف کا پڑھنا پہنچ سکتا ہے	۶۶
۶۰	مرنے والے کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین عمل ختم نہیں ہوتے	۶۷
۶۰	قبر پر دعا میں کونسی آیت پڑھنی چاہئے	۶۸
۶۰	قبر کو خانقاہ اور زیارت گاہ نہ بناؤ	۶۹
۶۰	قبرستان جانا اور قبر کو پختہ کرنے کے بارے میں جواز	۷۰
۶۱	کیا پختہ قبر بنانا جائز ہے	۷۱
۶۱	قُبہ یا روضہ بنانا	۷۲
۶۲	زیارت قبور میں ثواب	۷۳
۶۲	قبروں سے فیض قرآن پاک سے ثابت نہیں	۷۴
۶۳	سوئم، چالیسواں، ختم قرآن، آیت کریمہ اور باداموں کے ختم	۷۵

۶۵	مردے کو قرآن بخشنا	۷۶
	کسی کے فوت ہونے پر گھر والوں کو کھانا کھلانے کے رواج	۷۷
۶۶	کی شرعی حیثیت	
۶۶	کسی فوت شدہ عزیز کو ثواب کس طرح پہنچایا جائے	۷۸
۶۷	مردوں کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا پکانا	۷۹
۶۷	عرس منانا	۸۰
۶۸	بارہ وفات	۸۱
۶۸	قبروں پر پھول چڑھانا	۸۲
۶۸	قبروں پر چراغ جلانا	۸۳
۶۹	قبر میں سوالات کی زبان اور کیفیت	۸۴
۶۹	کیا زوحوں کا قبر سے تعلق ہوتا ہے	۸۵
	قبر میں سوال و جواب روح سے ہوتا ہے یا جسم میں وہ روح	۸۶
۷۰	واپس ڈالی جاتی ہے	
۷۱	مردوں کو سلام کرنا ان کا سننا	۸۷
۷۱	مردہ کی آواز	۸۸
۷۲	سماع موتی کے بارے میں جماعت کا مسلک	۸۹
۷۲	زندوں کو بھی مرنے والے کے حالات بتائے جاتے ہیں	۹۰
۷۳	جنتیوں اور دوزخیوں کو حال بتانا	۹۱
۷۳	قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۹۲
۷۳	قبر میں کیسا جسم ملے گا	۹۳
۷۵	لطیف جسم	۹۴

مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کیا یہی خاک کی جسم زندہ کیا جائے گا ...	۷۵	۹۵
موت کو یاد رکھنا	۷۶	۹۶
غار ت گر لذات چیز	۷۶	۹۷
طول اہل کا شکار	۷۸	۹۸
زندگی کا آخری میدان	۷۹	۹۹
موت کی تین طرح یاد	۷۹	۱۰۰
تسلیم و رضا کا مقام	۸۰	۱۰۱

موت برحق ہے

۱۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ۖ وَاللَّيْنَا تَرْجَعُوْنَ - (الانبیاء : ۳۶)

ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم تمہاری برے اور اچھے حالات سے آزمائش کریں گے اور آخر ہماری طرف ہی تم کو لوٹایا جائے گا۔

۲۔ مرنے والے دنیا کی طرف زندہ کر کے کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے
حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۗ
لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُنَادِرُنِيْ كَمَا كُنْتُ كَالًا ۖ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَبْلُهَا ۖ وَمَنْ وَّرَاٰهُمْ بَرَزَخْ اِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝
(مؤمنون : ۱۰۱-۱۰۰)

ترجمہ: اور اس وقت جب اُن میں سے کسی کی موت آجائے گی وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ تاکہ میں اس جگہ جس کو میں چھوڑ کر آ گیا ہوں (یعنی دنیا میں) مناسب حال عمل کروں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک منہ کی بات ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ اس دن تک وہ دوبارہ اٹھائیں جائیں گے۔

پس وہ دنیا کی طرف زندہ کر کے کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے۔

۳۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۖ وَاِنَّ الدَّارَ

الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوْنُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

(العنكبوت: ۶۵)

ترجمہ: اور یہ ورلی زندگی صرف ایک غفلت اور کھیل کا سامان ہے اور آخروی زندگی کا گھر ہی درحقیقت اصلی زندگی کا گھر کہلا سکتا ہے کاش کہ وہ لوگ جانتے۔

۴۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ لڈتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو بہت یاد رکھا کرو۔ (ترمذی)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب میرے گھر آنحضرت ﷺ کی باری ہوتی تو آپ رات کے آخری حصہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور کہتے کہ اے مومن مسلمانو! تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پہنچ چکا ہے اور ہم بھی خدا چاہے تو تم سے ملنے والے ہیں پھر فرماتے کہ اے اللہ ان قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ (مسلم)

بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم لوگ قبرستان میں جاویں تو کہنے والا یوں کہے۔

(ترجمہ) سلامتی ہو تم پر اے مومن مسلمانو! اور ہم بھی خدا چاہے تو تم سے آملنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے سلامتی اور عافیت طلب کرتے ہیں۔ (ریاض الصالحین)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ اگر وہ شخص نیک ہے تو (زندہ رہنے کی صورت میں) امید ہے کہ اور زیادہ نیکیوں کی توفیق مل جاوے اور اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ توبہ کا موقع میسر آ جاوے۔ (پیارے رسول کی پیاری باتیں علامہ میر محمد اسحاق صاحب)

حضرت مسیح موعود نے فرمایا موت کو ہمیشہ یاد رکھو زندگی چند روزہ ہے اس پر نازاں نہ ہونا چاہئے جو راستی پر ہو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا اُس کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن کی باقی ہے۔

۵۔ بعث بعد الموت

حضرت مسیح موعود نے فرمایا ”مرنے کے بعد ایک بعث ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا لیکن خدا کی قدرتوں کا اُسے علم نہ تھا تو اُس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ اجزا ایسے منتشر ہو جائیں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں جب وہ مر گیا تو اُس کے ورثانے ایسا ہی کیا لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کر دیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے اجزا کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا اس نے بیان کیا کیونکہ مجھ اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا اس لئے میں نے یہ تجویز کی تھی آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اُسے بخش دیا تو یہ بھی ایک قسم کی بعث ہے جو قبل قیامت ہوتی ہے مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ چھ دن کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گا اس کے معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ چھ دن کے بعد میری بعث ہوگی یہ ہمارا ایمان ہے۔“

۶۔ دنیا کی تلخیاں اور بے ثباتی

۱۳/ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو حضرت مسیح موعود نے فرمایا انسان اس دنیا میں آرام طلب کرتا ہے حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں ہیں خویش و اقارب کو ترک کرنا

دوستوں سے جدا ہونا ہر ایک محبوب سے کنارہ کشی کرنا البتہ آرام کی صورت میں یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے دل لگایا جائے انسان ایک لحظہ بھی خوشی کرتا ہے تو دوسرے لحظہ میں اسے رنج ہوتا ہے لیکن اگر رنج نہ ہو تو خوشی کا مزہ نہیں آتا جیسے کہ پانی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا درد محسوس ہو اس لئے درد مقدم ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۷۔ دنیا فنا کا مقام ہے

دنیا فنا کا مقام ہے اگر ایک مرجاتا ہے تو دوسرے نے کون سا ذمہ لیا ہے کہ وہ نہ مرے گا دنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قضا و قدر کو ماننا ہی پڑتا ہے دنیا ایک سرائے ہے اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گزارہ ہو۔

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود قدر کے لائق نہیں لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا ہے موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے تو اسے قضا و قدر پر راضی ہونا پڑتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں سے تعلقات دنیاوی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۴۳ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء)

۸۔ موت تبدیلی مکان ہے

حضرت مسیح موعود نے فرمایا میرا کوئی خرچ یا دکھ کی بات نہیں جس کو ہم کہتے ہیں مر گیا وہ دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے اور وہ جہاں نیک آدمیوں کے لئے بہت عمدہ ہے خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس نے دو گھر بنائے ہیں ادھر سے اٹھا کر ادھر آباد کر دیتا ہے۔ (صفحہ ۱۹۳ ذکر حبیب حضرت مفتی محمد صادق صاحب)

۹۔ موت ایک مرکب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتا ہے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی فرماتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ بیمار

پڑ گئے آپ کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے بہر حال آخری وقت معلوم ہوتا تھا مرزا سلطان احمد مرحوم موجود تھے اور زار زار رور رہے تھے حضور..... نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا موت کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتا ہے اگر موت نہ ہوتی سالکوں کے تمام سلوک نامتوام رہ جاتے۔

(اصحاب احمد جلد چہارم روایت ظفر صفحہ ۱۶۳)

۱۰۔ موت دونوں جہانوں کو جدا کرنے والا پردہ ہے

حضرت مصلح موعود ارشاد فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مرنے والے مر جاتے ہیں ان کے لواحقین اور رشتہ دار ساری عمر روتے رہتے ہیں ہمارا عزیز ہم سے جدا ہو گیا اور وہ اس پر اس قدر غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک ہوا ہے جو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن جب کسی شخص کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ زندگی صرف یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے تو وہ موت سے گھبراتا نہیں بلکہ سمجھتا ہے یہ ایک پردہ ہے جو اس عالم سے جدا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑکایا گیا ہے مجھے ایسا نظارہ اُم طاہر کی وفات کے دو چار دن بعد دکھایا گیا میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک اسٹیشن پر کھڑا ہوں جس کے دو حصے ہیں مگر اس کی دوسری طرف نظر نہیں آتی درمیان میں ایک لکڑی کا پردہ ہے جو دونوں کو جدا کر رہا ہے مگر وہ پردہ اس طرح کا ہے کہ کئی لکڑی کے ستون ترچھے گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں نیچے سے تو دیوار بالکل بند ہے مگر اوپر جا کر جو لکڑیاں یا بالے ہیں ان میں ایک شکاف ہے اور اس شکاف میں سے اُم طاہر مجھے جھانک رہی ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نیم باز ہیں اور وہ دوسری طرف کھڑی ہو کر اس شکاف میں سے اسٹیشن کے اس حصے کی طرف دیکھ رہی ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں۔

میں نے سمجھا کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کا ایک نظارہ دکھایا

ہے اور بتایا ہے کہ یہ سلسلہ متوازی چلتا چلا جا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک پردہ ہے جو دونوں جہانوں کو جدا کر رہا ہے ورنہ یہ بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی زندہ ہوتے یہ شور مچا رہے ہوتے کہ ہائے ہائے فلاں مر گیا اور مردہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں مرا میں تو اس دنیا میں زندہ موجود ہوں میں تو سمجھتا ہوں مرنے والے جب اپنے رشتہ داروں اور لواحقین کی یہ آوازیں سنتے ہو گئے تو وہ بعض دفعہ ہنستے ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو صحابہ کو بعث بعد الموت پر ایسا کامل یقین پیدا ہو چکا تھا کہ یوں معلوم ہوتا کہ وہ مصائب میں مزہ لیتے تھے ان کی پر لطف کیفیت کو دیکھ کر مجھے مولوی عبدالکریم صاحب کا ٹھنڈا پانی پینا یاد آ جاتا ہے وہ ٹھنڈا پانی اس لطف سے پیتے تھے کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ساتھ ہی پانی پی رہا ہے۔

(الفضل ۳۰ مئی ۱۹۴۴ء)

۱۱۔ موت دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ ہے

موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی ذی روح انکار نہیں کر سکتا پروردگار نے ایک وقت معین کر رکھا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ انسان نو مہینے پیٹ میں رہ کر اپنے کمال وجود کو پہنچتا ہے اور مرنے کے لئے کچھ دیر نہیں لگتی حضرت مسیح موعود و روحانی خزائن جلد ۵ میں فرماتے ہیں انسان مرنے کے وقت ایک ہی بیضے کا دست تھوڑا سا پانی تے کے طور پر نکال کر مُلک بچا ہوا جاتا ہے اور وہ بدن جس کی سالہائے دراز میں ظاہری اور باطنی تکمیل ہوئی تھی ایک ہی دم میں اُس کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے موت انسان کے لئے دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو وقت مقررہ پر خدا تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت کے مطابق گذرنا ہی ہے۔ قرآن کے ارشاد

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كَمَا عَيْنِ مُطَابِقٍ۔

(روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۵؟)

۱۲۔ نزع کے وقت پڑھنے کی دعائیں

جب تقاضائے قدرت کسی کی وفات کا وقت قریب آجائے تو اس کے پاس سورۃ یسین پڑھی جائے۔

(ابن ماجہ ابواب الجنائز باب ما یقال عند المریض اذا حضر صفحہ ۱۰۴)
دھیمے دھیمے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہئے وفات واقع ہونے پر اور ایسی خبر ملنے پر موجود لوگ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں مرنے والے کی آنکھوں کو ہاتھ سے بند کر دیں سر کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ
وَ اَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا۔ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِفُلَانِ

ترجمہ : ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے اپنی مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عنایت کر۔ اے اللہ تعالیٰ (متوفی کا نام لیکر) کو بخش دے۔

وَ اَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ وَ اَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي
الْغُيُوْبِيْنَ وَ اَغْفِرْ لَنَا وَاَلَيْهِ۔ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ اَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهٖ
وَ نَوِّرْ لَهُ فِيْهِ۔

ترجمہ : اور اس درجہ ہدایت پانے والوں میں بلند فرما اور کوئی ایسا جانشین مقرر فرما اس کے پسماندوں میں سے اور بخش دے ہم کو اور اس کو اے رب العالمین اور اس کے لئے اس کی قبر کو کشادہ فرما اور روشنی فرما اس قبر میں۔

(دعائے خزان ادعیۃ الرسول ﷺ)

۱۳۔ دم مرگ خیر کے کلمات کے سوا دوسری باتیں نہ کی جائیں
حضرت اُمّ سلمہؓ سے روایت ہے کہ جب نزع کے وقت ابو سلمہؓ کی آنکھ کھل

گئی اس وقت رسول کریمؐ اس کے پاس تشریف لائے آپؐ نے اس کی آنکھ بند کی اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اسکی تابع ہوتی ہے گھر والے رونے لگے تو فرمایا کہ تم اپنے نفسوں پر بجز خیر کے دوسری دعامت کرو کیونکہ فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپؐ نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہؓ کو بخش اور اس کا درجہ ان لوگوں میں بلند کر جن کو ہدایت کی گئی ہے اور اس کے پچھلوں میں تو اس کا خلیفہ ہو اور ہم کو اس کو اے رب الغلیمین بخش اور اس کے لئے اس کی قبر میں فراخی دے اور اس کی قبر میں اس کے لئے روشنی کر۔ (مسلم)

حضور اکرم ﷺ نہایت رقیق القلب تھے اعزہ کی وفات پر آپ کو بہت صدمہ ہوتا تھا آپ ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے اور انھیں صبر کی تلقین فرماتے۔

۱۴۔ میت کو غسل دینے کا طریق

میت کے غسل کے سلسلے میں آنحضورؐ نے فرمایا جو شخص میت کو نہلائے اور اس کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ اسکی چالیس بار مغفرت کرتا ہے۔ (مسلم)

اس کا طریق یہ ہے کہ تین بار بدن پر تازہ یا نیم گرم پانی ڈالیں اگر ہو سکے تو پیری کے پتے پانی میں ملانا مسنون ہیں۔ پہلے وہ اعضاء دھوئے جائیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ گلئی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے یا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں اس کے بعد بدن کے دائیں اور بائیں حصہ پر پانی ڈال کر دھوئیں نہلاتے وقت بدن کے واجب الستر حصہ پر کپڑا پڑا رہنا چاہئے میت مرد کو مرد، میت عورت کو عورت نہلائے اگر کوئی انتظام نہ ہو سکے تو بحالت مجبوری یا بشرط ضرورت بیوی اپنے متوفی شوہر کو اور میاں اپنی متوفیہ بیوی کو نہلا سکتا ہے۔

(ابن ماجہ ابواب الجنائز فی غسل الرجل امراتہ وغسل المرأة زوجہا صفحہ ۱۰۵)

حضرت اُمّ عطیہؓ سے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے عورتوں کو جبکہ وہ آپؐ کی بیٹی حضرت زینبؓ کو غسل دے رہی تھیں ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف سے نہلانا شروع کرو اور پہلے وضو کے اعضاء دھولو۔

(بخاری)

حضرت عبداللہ بن ابوبکرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکرؓ فوت ہوئے تو انکی بیوی اسماء بنت عمیسؓ نے ان کو غسل دیا مہاجرین صحابہ جو وہاں موجود تھے سے دریافت کیا کہ میں روزے سے ہوں اور سردی شدت کی ہے تو کیا غسل دینے کی وجہ سے مجھے بھی غسل کرنا ضروری ہے صحابہؓ نے ارشادات نبویؐ کی روشنی میں کہا نہیں یعنی غسل ضروری نہیں۔

(مؤطا امام محمد)

۱۵۔ طاعون زدہ کے غسل اور کفن کے بارے میں حکم
مومن طاعون سے مرتا ہے تو شہید ہے شہید کے واسطے غسل کی ضرورت نہیں شہید کے لئے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہاں اس پر چادر ڈال دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (ہدایۃ الجہد الباب الثانی فی غسل المیت الفصل الثالث صفحہ ۱۷۹)
(بدرد ۱۴ اپریل ۱۹۰۷ء)

۱۶۔ میت کو کفن پہنانے کا طریق

نہلانے کے بعد کفن پہنایا جائے جس میں کم قیمت اور سادہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے مرد کے تین کپڑے کرتہ، تہہ بند اور بڑی چادر جسے لفافہ بھی کہتے ہیں۔ عورت کے لئے ان تین کپڑوں کے علاوہ سینہ بند اور سر بند بھی ہونے چاہئیں تجھیز و تکفین میں سادگی اختیار کرنا موجب برکت و ثواب ہے شہید کو نہلانے اور کفن پہنانے کی ضرورت نہیں اُسے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں دفنایا جائے۔ غسل اور

تکفین کے بعد میت کا منہ دیکھنے کی اجازت ہے۔

(ابن ماجہ ابواب الجنائز باب ماجہ فی النظر الی المیت از ادان ج فی الکفانہ صفحہ ۱۰۶)

(فقہ احمدیہ عبادات)

۱۔ تجہیز و تکفین میں سادگی

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دریافت فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا عرض کیا تین کپڑوں کا ارشاد فرمایا میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہوں دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھولی جائیں اور ایک کپڑا نیا لیا جائے حضرت عائشہؓ نے درد مندانہ عرض کیا ابا جان ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا نئے کپڑوں کی مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے میرے لئے یہی پھنسا پراٹھیک ہے۔

حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ نے قیمتی کپڑا بطور کفن دینے سے منع فرمایا بیان کیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ قیمتی کپڑوں کا کفن مت دو کیونکہ وہ جلد ہی گل سٹر کر ختم ہو جائے گا یعنی قیمتی کپڑا مردے کے کسی کام نہیں آتا اس واسطے یہ بے ضرورت ہے یا یہ قیمتی کفن چوری ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے اس طرح غلغلا کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے۔ (ابوداؤد کتاب الجنائز)

تکفین کے بعد جنازہ کو کندھوں پر اٹھا کر جنازہ گاہ لے جایا جائے۔

حضرت امام مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات سوموار کے روز ہوئی اور دفن بروز منگل ہوئے اور آپ کا جنازہ لوگوں نے الگ الگ گروہوں کی شکل میں پڑھا کسی نے امامت نہیں کرائی۔

(موطا امام مالکؒ)

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس میت کا جنازہ سو مسلمان پڑھیں اور وہ سب کے سب اس کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

۱۸۔ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا

حضرت حسین بن وحونؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن براء بیمار ہوئے آنحضرت ﷺ انکی عیادت کیلئے تشریف لائے آپ ﷺ نے ان کی کیفیت دیکھ کر فرمایا طلحہ کی حالت نازک ہے موت کے آثار نمایاں ہیں اگر اس کی وفات ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا اور اسکی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا مسلمان کی میت کے لئے مناسب نہیں کہ زیادہ دیر تک گھر والوں میں روک رکھا جائے۔ (ابوداؤد کتاب الجنائز)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اگر مرنے والا نیک ہے تو تم بھلائی اور بہتری کی طرف اسے جلدی لے جاؤ گے اور اگر وہ صالح نہیں تو تم اُسے جلد دفن کر کے اپنی گردنوں سے بُرائی کا بوجھ اتار سکو گے۔

(بخاری کتاب الجنائز باب السرعة بالجنائزہ، حدیقة الصالحین)

۱۹۔ نماز جنازہ کا طریق

نماز جنازہ کے لئے حاضر لوگ امام کے پیچھے صف باندھیں زیادہ لوگ ہوں تو صفیں بنائی جائیں امام صفوں کے آگے درمیان میں کھڑا ہو میت اس کے سامنے ہو۔ جنازہ کی نماز میں دوسری نمازوں کے برخلاف رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے سب جیسے کھڑے سے کھڑے ادا کئے جاتے ہیں۔

(بخاری جلد اول باب سبہ الصلوٰۃ علی الجنائز)

اور یہ یعنی جنازہ کی نماز میت کو سامنے رکھ کر پڑھائی جاتی ہے اور یہی وجہ اس

میں رکوع اور سجدہ نہ ہونے کی ہے کیونکہ میت کے سامنے پڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا لگ سکتا ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ اس میت کو کیا جا رہا ہے اور ایسی لاش جو کسی بزرگ کی ہو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کئی کمزور طبائع خود بھی خیال میں مبتلا ہو سکتی ہیں پس نمازہ جنازہ سے رکوع اور سجدہ کو اڑا دیا گیا تا شرک کا قلع قمع ہو۔

اس نماز کے چار حصے ہوتے ہیں امام قبلہ رو کھڑا ہو کر بلند آواز سے سینہ پر ہاتھ باندھ کر تکبیر کہہ کر اس نماز کو شروع کرتا ہے اس نماز سے پہلے اقامت نہیں کہی جاتی پہلی تکبیر کے بعد منہ میں آہستہ آہستہ آواز سے تکبیر امام اور مقتدی اپنے اپنے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور بغیر رکوع میں جانے کے اسی طرح کھڑے ہوئے منہ میں آہستہ آہستہ آواز میں دُرود پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اپنے طور پر ایسا ہی کرتے ہیں اسکے بعد امام پھر تکبیر کہتا ہے اور اسی طرح کھڑے کھڑے میت کی بخشش کے لئے اگر وہ بالغ ہو دعا کرتا ہے اسی طرح دوسرے مسلمان مردوں، عورتوں، بڑوں اور چھوٹوں سب کے لئے عموماً اور میت کے پسماندگان کے لئے خصوصاً دعا کرتا ہے اور مقتدی بھی یہی کام کرتے ہیں میت نابالغ ہو تو اس کے ماں باپ کے صبر اور نعم البدل کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس امر کے لئے کہ مرنے والے کو خدا تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کے لئے اگلے جہان میں رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے بعض مقررہ دعاؤں کے علاوہ اپنے طور پر اپنی زبان میں بھی دُعا کی جاسکتی ہے اور کی جاتی ہے اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور تھوڑے سے وقفے کے بعد سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیتا ہے۔

(تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۱۱۵)

۲۰۔ نماز جنازہ کی مسنون دُعا میں

۱۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا

وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكَرْنَا وَ أَنْتَنَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَخِيْنْتَهُ مِنَّا فَآخِيْهِ عَلٰى
اَلْاِسْلَامِ ط وَ مَنْ تَوَقَّفْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّفْهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ ط

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے زندوں کو اور جو مر چکے ہیں اور جو حاضر ہیں اور جو موجود نہیں اور ہمارے چھوٹے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو اے اللہ تعالیٰ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو تو ہم میں سے وفات دے اس کو ایمان کے ساتھ وفات دے اے اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں نہ ڈال۔

۲- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَ اَرْحَمْهُ وَ عَافِهِ وَ اغْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ
مَنْزِلَهٗ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَ اغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَ التَّلْحِجِ وَ الْبَرْدِ وَ نَقِّمْ مِنْ
الْخَطَايَا كَمَا يُنْقِي الثُّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَبْدَلْهُ
دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ - وَ اَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَ زَوْجًا خَيْرًا
مَنْ زَوْجِهٖ وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ اَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ ط

اگر عورت کی میت ہو تو مذکر کی ضمیر کی بجائے یعنی لہ کی بجائے لہا کہے اور اسی طرح آگے سارے سارے ضمیروں کو بدلتا جائے مثلاً وَ اَرْحَمْهَا۔

(ابن ماجہ الدعاء فی الصلوٰۃ علی الجنائزۃ صفحہ ۱۰۸)

(مسلم باب الدعاء للمیت فی الصلوٰۃ شرح النبی صفحہ ۳۵۶/۵)

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر فرما اور اس کو عزت کی جگہ دے اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ فرما اور غسل دے اس کو پانی اور برف سے اور اولوں سے یعنی آب رحمت کے ذریعہ تپش گناہ اس سے دور فرما دے اور پاک و صاف کر اس کی خطاؤں سے جیسا کہ کپڑا

میل کچیل سے ڈھل کر صاف ہوتا ہے اور اس کو اس کے گھر کے بدلہ میں اچھا گھر عطا فرما اور اہل اچھے اس کے اہل سے اور ساتھی اچھے اس کے ساتھی سے اور اس کو بہشت میں داخل فرما اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

۲۱۔ نابالغ لڑکے کا جنازہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلْفًا وَفَرَطًا وَزُخْرًا وَأَجْرًا وَشَافِعًا
وَمُشَفِّعًا۔

(بخاری کتاب الجنائز صفحہ ۷۸ شرح السنۃ صفحہ ۵/۳۵۷)

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے فائدے کے لئے پہلے جانے والا اور ہمارے آرام کا ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب یہ ہمارا سفارشی بنے اور اس کی سفارش قبول فرما۔

۲۲۔ نابالغ لڑکی کا جنازہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا سَلْفًا وَفَرَطًا وَزُخْرًا وَأَجْرًا وَشَافِعَةً
وَمُشَفِّعَةً۔

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہمارے فائدے کیلئے پہلے جانے والی اور آرام کا ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب یہ ہماری سفارشی بنے اور اس کی سفارش قبول ہو۔

(مسنون دعائیں نماز مع باحاورہ اردو ترجمہ مولانا ملک سیف الرحمن فاضل)

نماز جنازہ کے بعد جتنی جلدی ہو سکے میت کو دفنانے کیلئے قبرستان لے جایا

جائے۔

حضرت اُمّ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہم عورتوں کو جنازہ کے

ساتھ جانے سے روکتے تھے لیکن اب بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے۔

(بخاری)

۲۳۔ نماز جنازہ میں چار سے زیادہ تکبیریں

مسلم ترمذی ابوداؤد کی حدیث ہے کہ!

(۱) كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ
خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا۔

(ابوداؤد ابواب الجنائز باب التكبير على الجنائز ص ۲-۱۰۰)

ترجمہ: یعنی زید بن ارقم نے ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے پانچ تکبیریں کہیں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ بھی (کبھی کبھی) اس طرح چار سے زائد تکبیریں کہا کرتے تھے۔

(۲-الف) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ إِنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ
عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى الصَّخَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى
سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا۔

(ابن منذر بحوالہ نیل الاوطار صفحہ ۴/۵۸)

(ب) عَنْ عَلِيٍّ إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ سِتًّا وَقَالَ
إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا۔

(بخاری کتاب المغازی صفحہ ۲/۵۷۱ و نیل الاوطار صفحہ ۴/۵۹)

یعنی ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ بدر کے صحابہ کے جنازہ میں چھ دوسرے صحابہ کے جنازہ میں پانچ اور عام لوگوں کے جنازہ میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔

بخاری میں بھی اسی مضمون کی حدیث آئی ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک بدری صحابی سہل بن حنیف کے جنازہ پر چھ تکبیریں کہیں۔

پس ان احادیث سے چار سے زائد تکبیرات کا جواز ثابت ہے جو عام دستور

چار تکبیریں کہنے کا ہے۔ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۳۷-۲۳۸)

۲۴۔ جنگ میں بہت سے فوجیوں کی شہادت اور ریزہ ریزہ ہو جانے کی صورت میں نماز جنازہ اور قبر کے بارے میں حکم جنگ میں بسا اوقات بمباری وغیرہ سے انسانی اعضاء کے بکھر جانے کی وجہ سے نعش ناقابل شناخت ہوتی ہیں ان کے لئے حکم ہے کہ ایک ہی جگہ نعشوں کے بچے کھچے حصوں کو جمع کر کے اکٹھے جنازہ پڑھا جائے اور ایک قبر میں دفن کر دیا جائے اس میں کچھ حرج نہیں احد کی جنگ میں ایک قبر میں کئی کئی شہدا کو دفن کیا گیا تھا۔

(ترمذی بات قتل احد و ذکر حمزہ صفحہ ۱-۱۳۱ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۳۸))

۲۵۔ جنازہ جب جائے تو تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہئے آنحضور ﷺ جب جنازہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ جنازہ جاتا ہو تو س کے ساتھ جاؤ ورنہ کم از کم کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک کھڑے رہو کہ جنازہ سامنے سے نکل جائے۔

۲۶۔ جنازہ اٹھاتے وقت میت کا سر کس طرف ہونا چاہئے جنازہ کو قبرستان لے جانا اور اس کی تدفین میں حصہ لینا ایک شرعی ہدایت ہے اور شرعی ہدایت کی بنیاد قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات پر ہے ہم اپنے قیاس یا خود ساختہ حکمت سے کسی امر یا طریق کار کو شرعی نہیں قرار دے سکتے جنازہ لے جاتے وقت میت کا سر کس طرف اور پاؤں کس طرف ہونے چاہئیں طبعی طریق جسے سنت، عمل اور امت کے تعامل نے واضح کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے عملاً تصدیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میت کا سر ادھر ہونا چاہئے جدھر جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور حکمت دینی کا تقاضہ بھی یہی ہے۔

فقہ کی کتابوں میں جنازہ اٹھانے کا جو طریق لکھا ہے وہ یہ ہے۔

ترجمہ : یعنی جنازہ چار اطراف سے اٹھایا جائے جو شخص جنازہ کو کندھا دینا چاہے وہ پہلے میت کے اگلے حصہ کی دائیں جانب کو کندھا دے پھر دوسرا اس کے پچھلے حصہ کی دائیں جانب کو کندھے پر رکھے پھر تیسرا اگلے حصہ کی بائیں جانب کو کندھا دے اور چوتھا پچھلے حصہ کی بائیں جانب کو کندھا دے۔ (تحفۃ الفقہاء صفحہ ۱/۴۸۶)

حضرت انسؓ سے طبرانی کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا :-

مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ
عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً

یعنی جو شخص جنازہ کو چاروں اطراف سے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس قصور معاف کر دے گا۔ (طبرانی الاوسط بحوالہ نیل الاوطار کتاب الجنائز)

باب حمل الجنائز والیسر بہا صفحہ ۴/۶۹

۲۷۔ کسی عورت کی وفات پر دوسری عورت کا موجود نہ ہونا اور مرد کی وفات پر کسی دوسرے مرد کے موجود نہ ہونے کی صورت غسل و نماز جنازہ

میدان جنگ میں اگر کوئی عورت ایسی حالت میں مر جائے کہ وہاں کوئی دوسری عورت نہیں تو بلا غسل اس کی تجہیز و تکفین کی جائے ہاں نماز جنازہ میں اگر کوئی روک نہ ہو تو پڑھی جائے بحالت ضرورت غیر محرم مرد عورت کا جنازہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی تدفین کر سکتے ہیں اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے عورت کی وفات ہو جائے تو غسل کے لئے کپڑوں سمیت اوپر پانی ڈالا جائے اور پھر کفن میں لپیٹ کر تدفین کی جائے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں بلا غسل تدفین ہو یا میت کو تیمم کرانے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لے۔

(مراہیل ابوداؤد باب غسل الميت صفحہ ۱۷۷)

ہمارے نزدیک میت کے رشتہ دار یا جماعت کے ذمہ دار عہدے دار حسب صوابدید و موقع مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں جس طرح بیماری کی صورت میں اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو عورت مرد ڈاکٹر سے بھی علاج اور قابل ستر حصہ میں بیماری کی تشخیص کر سکتی ہے اسی طرح یہاں بھی یہی طرز عمل اختیار کیا جاسکتا ہے بہر حال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور پردہ دار غیر محرم کو چھونے کی ممانعت سے متعلق عام ہدایات پر اس اجتہاد کی بنیاد ہے فقہاء نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(ہدایۃ المجتہد الباب الثانی فی غسل المیت الفصل الثالث - صفحہ ۱/۱۷۹، فقہ احمدیہ) ۲۸ - غیر مسلم کی وفات اسلامی معاشرے میں

اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے ہاں یا اسلامی معاشرے میں فوت ہو جائے اور اس کے لواحقین کے لئے اسکی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ممکن نہ ہو تو تکفین اور تدفین کا انتظام مسلمان اپنے طریق پر کر سکتے ہیں البتہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔

بحوالہ (الف) ابوداؤد باب الرجل یموت لہ قرابۃ مشرک

صفحہ ۲/۱۵۲ (ب) ہدایہ صفحہ ۱/۱۴۰

۲۹ - نماز جنازہ جو تینوں سمیت اور ننگے سر پڑھنے کے بارے میں

(الف) نماز جنازہ جو تینوں سمیت پڑھنے کے بارے میں حدیث میں امر پوری وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ جوتی کے ساتھ نماز جائز ہے حدیث کی ہر مشہور کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ ہم جو مساجد میں جوتیاں لے جانے سے منع کرتے ہیں تو اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں صفائی رہے دریاں اور فرش گندے نہ ہوں ورنہ یہ ممانعت کسی شرعی حکم کی وجہ سے نہیں ہے۔ نماز جنازہ چونکہ مسجد کے باہر ہوتی ہے اس لئے جوتیاں پہن کر نماز جنازہ ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(ب) ننگے سر نماز ادا کرنا پسندیدہ امر نہیں کیونکہ یہ امر بزرگوں اور سلف صالحین

کے طریق کے خلاف ہے۔ اس لئے معیوب ہے۔

۳۰۔ نماز جنازہ کا وقت

نماز جنازہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نماز عصر کے بعد بھی اور نماز فجر کے بعد بھی اس میں کوئی شرعی روک نہیں ہے۔ البتہ کچھ فرقے مکروہ اوقات میں نماز جنازہ پسندیدہ نہیں سمجھتے۔

(۱) ترمذی باب کراۃ الصلوٰۃ علی الجنائزہ صفحہ ۱۲۲/ب (شرح وقایہ کتاب الصلوٰۃ صفحہ ۱۳۹/۱)

۳۱۔ پھانسی پانے والے شخص کی نماز جنازہ

جس شخص کو پھانسی کی سزا ملی ہو اس کی نماز جنازہ جائز ہے۔ اعتراف جرم کی صورت میں سزا پانا ایسی توبہ کا رنگ رکھتا ہے کہ اگر یہ توبہ ایک بڑی قوم پر تقسیم کی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً قَسِمَتْ
بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعَتْهُمْ

(مسلم کتاب الحدود بن اعتراف علی نفس بالزلی صفحہ ۱۱۰/۳)

۳۲۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

آنحضرت ﷺ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ
(ابن ماجہ کتاب الجنائز باب فی الصلوٰۃ علی اهل القبلیۃ صفحہ ۱۱۰)

ایک شخص نے تیز پھل والے تیر سے خودکشی کر لی آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بعض علماء نے کہا آپ گایہ عمل عبرت اور فعل کی شناخت کے اظہار کے لئے تھا کہ یہ بہت ہی بدی کا کام ہے۔ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۵۱-۲۵۰)

۳۳۔ جنازہ غائب

آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے نجاشی شاہِ حبشہ (جو مسلمان ہو چکے تھے) کی نماز جنازہ پڑھی تھی جبکہ نجاشی کی لاش ظاہری لحاظ سے عام دستور کے مطابق آپ کے سامنے نہ تھی چنانچہ روایت ہے:-

(ترجمہ) حضور نے اپنے صحابہ کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی پھر فرمایا اس کے لئے بخشش کی دعا کرو پھر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ میں آئے اور کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھائی جس طرح (سامنے پڑے ہوئے) جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ (مسند احمد صفحہ ۲/۵۲۹)

ترمذی نے بھی اس مضمون کی روایت کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ
أَخَاكُمُ النَّجَاشِي قَدِمَات فِقَوْمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ

(ترمذی ۱/۱۲۳)

ایک اور روایت:

یعنی حضور باہر تھے کہ اُم سعد وفات پا گئیں جب ایک ماہ کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ کو وفات کا علم ہوا تو آپ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(ترمذی باب الصلوٰۃ صفحہ ۱/۱۲۳)

مجموعہ احادیث کی مشہور کتاب کشف الغمہ میں ہے۔

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ (كشف الغمہ ۱/۲۹۲)

آنحضرت ﷺ اس شخص کا جنازہ پڑھتے جو مدینہ سے دور کسی دوسری جگہ فوت ہوتا۔ غرض اس مضمون کی احادیث صحاح ستہ میں بکثرت آئی ہیں اسی بنا پر صاحب نیل الاوطار لکھتے ہیں۔

ترجمہ : یعنی فقہ کے مشہور عالم حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمد جنبلؒ اور اکثر بزرگانِ سلف جنازہ غائب پڑھنے کے قائل تھے مشہور محدث ابن حزم کہتے ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں آتا کہ اس نے جنازہ غائب سے منع کیا ہو امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ نماز جنازہ تو ایک دُعا ہے پھر غائب میت کے لئے یہ دُعا کیوں جائز نہیں۔ (نیل الاوطار الصلاۃ علی الغائب بالذیہ علی القبر الی شہر صفحہ ۴/۴۹)

حضرت مسیح موعود نے فرمایا:-

”جو جنازے میں شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے طور پر دُعا کریں یا جنازہ غائب پڑھیں۔“
(بدر ۱۹ مئی ۱۹۰۷ء)

۳۴۔ نماز جنازہ کا تکرار

ایک میت کی کئی بار نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے اور اس کا جواز مندرجہ ذیل روایات سے ثابت ہے۔

(۱) أَنَّهُ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى قَتْلِي أَحَدِ عَشْرَةَ وَفِي كُلِّ عَشْرَةَ حَمْزَةً حَتَّى صَلَّى عَلَيَّ سَبْعِينَ۔

ترجمہ : یقیناً حضور ﷺ نے احد کے شہداء کا دس دس کا جنازہ پڑھا اور ہر دفعہ حضرت حمزہؓ کو شامل کیا اس طرح حضور ﷺ نے حضرت حمزہؓ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا۔
(نیل الاوطار ترک الصلوٰۃ علی الشہید صفحہ ۴/۴۳)

(۲) حضرت امام اعظمؒ کی چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔

(سیرت آئمہ اربعہ صفحہ ۶۳)

۳۵۔ نماز جنازہ حاضر یا غیر حاضر میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شمولیت
نماز جنازہ میں عورتوں کی شمولیت کے اہتمام کو پسند نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے زمانے میں اور پھر اس زمانہ کے حکم و عدل کے عہد میں

اس نماز میں عورتوں کی شمولیت کی کوئی نمایاں مثال ہمیں نہیں ملتی البتہ اگر اتفاقاً طور پر کوئی عورت شامل نماز ہو جائے مثلاً جمعہ یا درس کے لئے عورتیں جمع ہیں اور جنازہ آگیا ہے یا گھر کے صحن میں نماز جنازہ ہو رہی ہے اور صفوں کے پیچھے دو چار عورتوں نے اپنی صف بنالی ہے اور نماز پڑھ لی ہے تو ایسی صورت جائز ہوگی۔

اسی طرح نماز جنازہ غائب میں بصورت موجودگی (جیسے جمعہ کی نماز کے بعد جنازہ غائب یا حاضر ہو اور عورتوں کو اپنی الگ صف بنانے کے لئے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے) تو نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں اس کا جواز مندرجہ ذیل روایات سے نکلتا ہے اور سابقہ علماء نے بھی ان سے ایسا ہی استدلال کیا ہے۔

ترجمہ : یعنی حضرت عائشہؓ نے سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ میت مسجد میں رکھوا کر پڑھی۔ (مسلم کتاب الجنائز باب الصلوٰۃ علی الجنائزہ فی المسجد صفحہ ۳۸۵/۲)

(مشکوٰۃ ابواب الجنائز صفحہ ۱۳۵ حاشیہ ۴)

ترجمہ : یعنی آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے عمیر کی نماز جنازہ ان کے گھر میں پڑھی آپ آگے تھے ان کے پیچھے ابو طلحہ اور ان کے پیچھے امّ سلیم صف بنا کر کھڑی تھیں۔ (اوجز المسالک شرح مؤطا امام مالک صفحہ ۳۶۱/۲)

ترجمہ : یعنی آنحضرت ﷺ کی نماز جنازہ عورتوں نے بھی پڑھی۔

(ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ ودفنہ علیہ السلام صفحہ ۱۱۷)

تاہم اس جواز کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ عورتوں کے لئے خاص طور پر جنازہ کے ساتھ نکلنا اور جنازہ کی نماز میں اہتمام کے ساتھ شامل ہونا پسند نہیں کیا گیا۔

۳۶۔ مسجد میں میت رکھ کر نماز جنازہ ادا کرنا

عام علماء کا مسلک یہ ہے کہ جنازہ کی نماز مسجد سے باہر ہو یعنی میت اور نماز جنازہ پڑھنے والے دونوں مسجد سے باہر ہوں لیکن ضرورت یا مجبوری ہو تو مسجد کے اندر

بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے میت کو بلا اشد مجبوری مسجد کے اندر نہیں رکھنا چاہئے بلکہ صورت یہ ہو کہ امام اور مقتدی مسجد کے اندر صرف باندھے ہوں اور میت مسجد سے باہر امام کی نظر کے سامنے ہو اس طریق عمل کے جواز کے لئے سند موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

ترجمہ : (۱) یعنی حضرت سعد بن وقاصؓ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہؓ معتکف تھیں اس لئے انھوں نے کہلا بھیجا کہ میت مسجد میں لائی جائے تاکہ وہ بھی جنازہ میں شامل ہو سکیں بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپؐ نے کہا آنحضرت ﷺ نے بیضاء کے دو بیٹوں کا جنازہ (غالباً اعتکاف کی وجہ سے یا بارش کے پیش نظر) مسجد میں پڑھا تھا۔

(مسلم کتاب الجنائز باب الصلوٰۃ علی الجنائزہ صفحہ ۲/۳۸۵)

(۲) حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی نعش مبارک مسجد نبوی میں منبر اور روضہ کے درمیان رکھ کر نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔

(عمر فاروق اعظمؓ از محمد حسین بیگل اردو ترجمہ صفحہ ۷۳۰)

حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى عُمَرَ
بَنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ

(موطا امام مالک باب الصلوٰۃ علی الجنائز)

فی المسجد صفحہ ۵۰ و نصب الراية صفحہ ۲۷۶)

كُرِّهَتْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ
خَارِجَةً..... لَا تَكْرَهُهُ عِنْدَ الْمَشَائِخِ

یعنی مسجد میں میت رکھ کر جنازہ پڑھنا بعض علماء کے نزدیک مکروہ اور

ناپسندیدہ ہے لیکن اگر نمازی مسجد میں ہوں اور میت مسجد سے باہر ہو تو یہ جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ صفحہ ۱/ ۵۲۷)

۳۷۔ قبر کی تیاری اور انداز تدفین

جب جنازہ قبرستان لے جایا جائے سب ساتھ جانے والوں کو باری باری کندھا دینے کی کوشش کرنی چاہئے۔

قبر لحد والی یا شق دار دونوں طرح جائز ہے البتہ میت کی حفاظت کے پیش نظر کشادہ اور گہری ہونی چاہیے بصورت مجبوری ایک قبر میں کئی میتیں بھی دفن کی جاسکتی ہیں اگر میت امانتاً دفن کرنا ہو یا زمین سخت سیلابہ ہو تو میت کی حفاظت کے مد نظر لکڑی یا لوہے کے صندوق میں دفن کر سکتے ہیں۔ (رد المحتار صفحہ ۸۳۶ جلد اول حاشیہ)

میت کو احتیاط کے ساتھ قبر میں اتارتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ کے الفاظ کہے جائیں۔

(ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء فی ادخال المیت القبر صفحہ ۱۱۱)

لپٹی ہوئی چادر کا بند کھول کر میت کا منہ ذرا قبلہ کی طرف جھکا دیا جائے کچھ اینٹیں یا چوڑے پتھر رکھ کر لحد بند کر دی جائے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے ہر حاضر کو مٹی ڈالنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہئے اور نہیں تو دونوں ہاتھوں سے تین مٹھی مٹی ڈالے اور ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی
ترجمہ : ہم نے اسی (زمین) سے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے اور اسی میں سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ (سورۃ طہ آیت ۵۶)

قبر کو مسطح اور کوہان دار بنانا مسنون ہے قبر تیار ہونے پر مختصر سی دعائے مغفرت کی جائے۔ اس کے بعد اَللّٰهُمَّ وَعَلَيْكُمْ وَاِنَّا اِنْشَاءُ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ کہتے

ہوئے یاد دل حزیں صبر و حوصلہ لوگ واپس آئیں۔ (فقہ احمدیہ)

حضرت عثمان بن عفانؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضورؐ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے بخشش مانگو اسکی ثابت قدمی کے لئے دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے۔ (ابوداؤد)

۳۸۔ قبروں پر پڑھنے کی مسنون دعائیں

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ
 إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ وَلَكُمْ الْعَافِيهِ
 سلامتی ہو تم پر اس دیار کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ چاہے تم
 سے ملنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت مانگتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا

وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ

ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اے قبروں کے رہنے والو! ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے تم
 آگے آگے چلو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔

دعائیہ خزائن ادعیۃ الرسول ﷺ

۳۹۔ حضرت مسیح موعود کی تدفین کے متعلق

حضرت بھائی عبدالرحمن قادیانی کی روایت

لاہور سے جس تابوت پر حضور پُر نور کا جسد اطہر لایا گیا تھا بٹالہ پہنچ کر یہاں کر
 دیا گیا اس طرح نعش مبارک بٹالہ سے قادیان چار پائی پر لائی گئی تھی لوگوں کو چہرہ
 مبارک دکھانے اور جنازہ پڑھنے کے وقت تک بلکہ اس کے بعد قبر لے جانے کے
 وقت بھی حضور پُر نور کا جسم مبارک چار پائی پر ہی تھا نہ کسی پہلے صندوق میں رکھا گیا نہ

کسی دوسرے میں۔ قبر تیار کرنے والوں نے اس خیال سے کہ نعش مبارک چونکہ صندوق میں آئی ہے دفن بھی ضرور صندوق میں کی جائے گی قبر ایسے طریق پر کھدوائی جس میں صندوق اتارا جاسکے اور لحد نہ بنائی حضور کا جسد اطہر بغیر کسی تابوت، صندوق یا بکس کے صرف کفن میں لپٹا ہوا قبر میں اتارا گیا جس کے فرش پر کچھ ریت بچھادی گئی تھی قبر کے گڑھے کے اندر اینٹ کی دیواروں پر لاہور سے آئے ہوئے بکس کے تخت ڈال کر چھت دیا گیا تھا اور ان کے اوپر کچی اینٹوں کی ڈاٹ لگادی گئی تھی پھر اس ڈاٹ کے اوپر مٹی ڈلوائی گئی مکرم قاضی عبدالکریم صاحب جو اس وقت اس کام پر مامور تھے ان کی خواہش اور تجویز تھی کہ تختوں کے اوپر ڈاٹ پختہ اینٹوں کی بنائی جائے تاکہ قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ نہ رہے مگر حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے اس کی اجازت نہ دی۔

روزنامہ الفضل ۱۶ جولائی ۱۹۴۲ء

۴۰۔ تدفین کے بعد نعش ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانا
میت اگر ایک جگہ دن ہو اور ضرورت کی بناء پر اسے دوسری جگہ یا دوسرے ملک میں منتقل کرنا ہو تو اس میں کوئی شرعی روک نہیں ہے اصل مقصد میت کی توقیر ہے اگر نعش نکالنے کا مقصد اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کوئی مفید اور مسلم غرض ہو تو نعش کو قبر سے نکالا جاسکتا ہے خصوصاً جبکہ وہ بکس میں محفوظ ہو۔

ضرورت اور مصلحت کا فیصلہ مسلمانوں کے مرکزی نظام یا مقامی تنظیم کو کرنا چاہئے اصل مقصد یو سے بچنا ہے اگر یو نہیں تو عرصہ کی تعیین کے بغیر بھی بکس نکالا جاسکتا ہے عرصہ اور مدت کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ اندازہ اور تجربہ کی بناء پر چھ ماہ یا سال کی مدت بتائی جاتی ہے کہ اس عرصے میں بالعموم یو ختم ہو جاتی ہے اور نعش خشک ہو جاتی ہے۔
سابقہ فقہاء کی آراء اور بعض واقعات

۱۔ كَان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحُصُ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ

وَ نَبَشِ قَبْرَهُ لِمَصْلُحَةٍ

۲- مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بِقَصْرِ هَمَّا
بِالْعَتَبِقِ فَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَ دُفِنَا بِهَا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید عقیق میں وفات پا گئے انکی نعش مدینہ لائی
گئیں اور وہاں تدفین ہوئی۔

۳- تُوْفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبْشَةِ (اسمُ مَكَانٍ)
فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ وَ دُفِنَ بِهَا۔

حضرت عبداللہ بن ابی بکر حبشہ میں وفات پا گئے ان کی نعش کو مکہ لایا گیا اور تدفین
ہوئی۔ (کشف الغمہ صفحہ ۱/۳۰۸ باب فی نقل المیت)

۴- حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی نعشیں مصر سے منتقل کر کے فلسطین
لائی گئیں۔ (۱) طبری الجزء اول تاریخ الامم والملوک صفحہ ۱۸-۲۱۶

(ب) البدایہ والنہایہ صفحہ ۱/۲۲۰ (ج) رذ الختار صفحہ ۱/۸۴۰

۵- تابوت کے جواز کے بارے میں مندرجہ ذیل سند قابل مطالعہ ہے:-

(۱) لَابَأْسَ بِاتِّخَاذِ التَّابُوتِ وَلَوْ بِحَجْرٍ أَوْ حَدِيدٍ
عِنْدَ الْحَاجَةِ كَرِخَاوَةَ الْأَرْضِ۔

(ب) اسْتَحْسَنَ مَشَائِخُنَا اتِّخَاذَ التَّابُوتِ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ لَمْ
تَكُنِ الْأَرْضُ رَخْوَةً فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى السَّتْرِ وَالتَّحْرُّرِ
مَنْ سَتَّهَا عِنْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ۔

رد المحتار صفحہ ۱/۸۳۶

۴۱- دین حق میں میت کا احترام

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:-

”لَا تَسْبُو الْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَيَّ مَا قَدَّمُوا“

(المسجد رک، کتاب الجنائز باب النسی عن سب المیت)

یعنی تم وفات یافتہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ان سے برا سلوک نہ کرو کیونکہ وہ اپنے خدا کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ جیسا چاہے گا ان سے سلوک کرے گا تمہارے برا بھلا کہنے سے ان کا کچھ نہ بگڑے گا تم صرف اپنی زبان ہی گندی کرو گے۔

اسی طرح حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن بیان کرتی ہیں کہ

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ

يَعْنِي نَبَاشِ الْقُبُورِ

(مؤطا امام مالک جنائز باب ماجاء في الاختفاء وهو النباش)

کہ حضور ﷺ نے قبروں کو بد نیتی اور بے حرمتی کے طور پر اکھیڑنے والوں

پر لعنت بھیجی ہے۔

اسی طرح ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی مردے کی قبر بد نیتی سے

اکھیڑتا ہے تو اسے قطع ید کی سزا دی جائے کیونکہ وہ ایک میت کے گھر میں داخل ہوا

(ابوداؤد کتاب الحدود باب في قطع النباش)

ہے۔

فقہاء نے بھی وضاحت کی ہے کہ مردوں کی بے حرمتی نہ کی جائے خواہ وہ

غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب بحر الرائق میں لکھا ہے کہ

”اگر قبرنگی ہو جائے اور اس میں یہودی کی ہڈیاں نظر آرہی ہوں تو ان کی

بے حرمتی نہ کی جائے کیونکہ ان ہڈیوں کی بے حرمتی بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی ہڈیوں

کی ہے نیز جب زندگی میں ان سے ظالمانہ سلوک کرنا اور ان کی بے حرمتی کرنا منع ہے تو

ان کی وفات کے بعد بطریق اولیٰ یہ ممانعت قائم ہے..... توہین کی غرض سے قبر اکھیڑنا

حرام ہے۔“ (بحر الرائق جلد دوم صفحہ ۱۹۵)

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل واقعات احترام میت کی ضرورت پر کھلی روشنی ڈالتے ہیں۔

۱۔ ”مرّ علی رسول اللہ ﷺ بجنازة فقام فقيل له انه يهودی فقال لیست نفساً“

(سنن نسائی - کتاب الجنائز باب القیام الجنائزۃ اہل الشریک)

کہ ایک دفعہ حضور ﷺ تشریف فرماتھے کہ ایک جنازہ گذرا آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے کسی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا انسان تو ہے گویا انسانیت کا احترام آپ کو اس حد تک تھا کہ آپ گسی جنازے کے احترام کے لئے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔

۲۔ ”جنگِ احزاب میں ایک کافر سردار خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا اور نعش پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا کفار نے پیشکش کی کہ دس ہزار درہم لے لیں اور یہ نعش ان کے حوالے کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ہم مردہ فروش نہیں ہم اس کی دیت نہیں لیں گے اور پھر بلا معاوضہ اس نعش کو واپس کر دیا۔“

(شرح الواہب اللدنیۃ نیلننور قانی جلد دوم صفحہ ۱۴)

اسی طرح حضور ﷺ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر میدان جنگ میں یا اس قسم کے حالات میں آپ کو کوئی نعش پڑی ملتی تو آپ اس کی تدفین کا حکم دیتے اور اسے اپنی نگرانی میں دفن کراتے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مومن کی نعش ہے یا کافر کی۔

(السیرۃ الجلیلہ جلد ۲ صفحہ ۱۹۰)

حضور ﷺ کا حکم تھا کہ کسی مخالف کی نعش کا مثلہ نہ کیا جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو وحشت مذہب سے دور لوگوں میں پائی جاتی ہے آنحضورؐ مسلمانوں میں اس کو مٹانا چاہتے تھے اور سب کو تہذیب کے دائرے میں رکھنا آپ کا

منصب حاصل تھا۔

اسی طرح بنو قریظہ کو جب ان کی سرکشی کی سزا دی گئی تو ان کی نعشوں کو خندقیں کھدوا کر دفن کیا گیا۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد ۳ صفحہ ۲۵۹)

آنحضرتؐ نے اپنے چچا اور حضرت علیؑ کے والد ابوطالب کی وفات پر حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے والد کی تجہیز و تکفین کریں اور غسل دیں پھر ان کو دفنائیں۔ (السیرۃ الجلیلیہ جلد ۱۰ صفحہ ۳۸۹)

۴۲۔ وفات پر تعزیت

وفات ہو جانے پر ضروری ہے کہ پسماندگان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو غم نہ ہو بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ایسا غم نہ جو حواس جاتے رہیں اور عقل اور قوت عملیہ باطل ہو جائے یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی فطرت انسانی کے مطابق تعلیم ہے نہ غم سے روکا کہ وہ فطرتی امر ہے نہ جزع فزع اور کام چھوڑ دینے کی اجازت دی کہ یہ بزدلی اور کم ہمتی کی علامت ہے مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے کی بجائے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ وہ نمونہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امید رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچے تو وہ گھبرانے اور جزع فزع کرنے کی بجائے خدائے تعالیٰ پر توکل رکھیں اسی کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے سچے دل سے یہ کہیں **اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ** بظاہر یہ چھوٹا سا فقرہ ہے مگر اپنے اندر وسیع مطالب رکھتا ہے۔

(تفسیر کبیر جلد دوم سورۃ بقرہ آیت ۱۵۷ حضرت مصلح موعود)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم خدا کے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے سب سے پہلے یہ صدق و وفا کے کلمے آنحضرت ﷺ کے منہ سے نکلے

پھر دوسروں کے لئے اس نمونہ پر چلنے کا حکم ہو گیا۔ تاریخ دان جانتے ہیں کہ آپ کے گھر گیا رہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے آپ نے ہر لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو لخت جگر ہوتے ہیں یہی منہ سے نکلا کہ اے خدا ہر ایک چیز پر میں تجھ کو مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں۔

(روحانی خزائن جلد ۲۳ چشمہ معرفت حصہ دوم)

۴۳۔ صبر کے بارے میں قرآنی ارشاد

وَاضْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ تَرْجَمَةٌ: جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کر (سورۃ لقمان) کے مطابق تکلیف پر صبر سے کام لینا چاہئے کیونکہ خدا تعالیٰ صابرين سے محبت رکھتا ہے اور ان کا دوست بن جاتا ہے۔

سورۃ بقرہ رکوع ۱۹ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سِی الْمُهْتَدُونَ)

ترجمہ: اور تو ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

۴۴۔ صبر وہ ہے جو صدمہ کی ابتدائی حالت میں کیا جائے

وقت تو بہر حال گذر جاتا ہے گوشت پلاؤ کھانے والے بھی آخر مر جاتے ہیں لیکن جو شخص تلخیاں دیکھ کر صبر کرتا ہے اس کو بالآخر اجر ملتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی اس بات پر شہادت ہے کہ صبر کا اجر ضرور ملتا ہے۔

جو لوگ خدا تعالیٰ کی خاطر صبر نہیں کرتے ان کو بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے پھر نہ

وہ ثواب ہے نہ اجر۔ کسی عزیز کے مرنے کے وقت عورتیں سیا پا کرتی ہیں بعض نادان

مرد سر پر رکھ ڈالتے ہیں تھوڑے عرصہ کے بعد ہی صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ایک عورت کا ذکر ہے کہ اس کا بچہ سر گیا وہ قبر کھڑی سیا پا کر رہی تھی آنحضرت ﷺ وہاں سے گذرے تو آپ نے فرمایا تو خدا سے ڈر اور صبر کر اس کمبخت نے جواب دیا کہ تُو جاتھ پر میرے جیسی مصیبت نہیں پڑی بد بخت نہیں جانتی تھی کہ آپ گیا رہ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والے ہیں جب اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو نصیحت کرنے والے خود آنحضرت تھے تو پھر آپ کے گھر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں آپ نے فرمایا ”الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى“ صبر وہ ہے جو پہلے ہی مصیبت پر کیا جائے غرض بعد میں وقت گذرنے پر رفتہ رفتہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے صبر وہ ہے جو ابتدا ہی میں انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے یہ صبر کرنے والوں کا مقدر ہے۔

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ ۴۱۸-۴۱۹)

۴۵۔ آنحضرت ﷺ کی وفات پر صحابہ کی بیقراری اور فرط غم آپ ﷺ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی تھی وہ دیوانہ وار پھرتے تھے آپ کی زندگی اُن کو اتنی عزیز تھی کہ حضرت عمرؓ نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اُس کا سر اُڑا دوں گا اس شور پر حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی وفات پر خدا تعالیٰ دو موتیں جمع نہ کرے گا اور پھر یہ آیت پڑھی

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(ال عمران : ۱۳۵)

یعنی آنحضرت ﷺ بھی ایک رسول ہیں پہلے جس قدر رسول آئے سب وفات پا گئے

ہیں صحابہؓ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا یہ آیت اب اتری ہے انہوں نے معلوم کیا کہ آپؐ کے مقابلہ میں کوئی اور زندہ نہیں ہے۔

حسان بن ثابتؓ نے اس موقع پر ایک مرثیہ لکھا جس میں وہ کہتے ہیں۔

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَظْرِي - فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّظَرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ - فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذِرُ

یعنی اے میرے پیارے نبیؐ تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا اور میرے دیدوں کا نور تھا پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا ہوں اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۱۳۵)

حضرت مسیح موعودؑ ایک اور جگہ فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کی وفات پر صحابہؓ کس قدر بیقرار ہو گئے تھے انہیں قرار نہیں آیا جب تک حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خطبہ پڑھ کر سب انبیاء علیہم السلام کی وفات پر اجماع نہ کرایا فرمایا یہ کیا ہی مبارک اجماع تھا اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو بڑا بھاری فتنہ اسلام میں پیدا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** (ال عمران: ۱۳۵) ہی پر ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا فشاء تو اس صدمہ کو دور کرنا تھا اور وہ مرگ یا راں جسنے دار دہی سے دور ہونا تھا۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۳۳۵)

آنحضرت ﷺ کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہؓ کو نہ ہوا ہو ایک گاؤں کا نمبر دار یا محلّہ دار یا گھر کا عمدہ آدمی مر جائے تو گھر والوں یا محلّہ والوں یا دیہات والوں کو صدمہ ہوتا ہے پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لئے آیا تھا اور **رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** ہو کر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (الانبیاء: ۱۰۸) اور پھر دوسری جگہ فرمایا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (الاعراف: ۱۵۹)

پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے کہ جنگی نظیر نہیں ملتی وہ فوت ہو جاوے اس کے چائنا رقبین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دے دینے سے دریغ نہ کیا جنہوں نے وطن چھوڑا خویش و اقارب چھوڑے اور اس کے لئے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لئے راحت جان سمجھا ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر دکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ جو حضرت ابو بکرؓ نے پڑھی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے وقت میں صحابہ کو سنبھالا۔

۴۶۔ مومن وہی جو آپ ﷺ کی اتباع کرے

آنحضرت ﷺ کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا دکھ کر کے لوگ روتے ہیں پھر صحابہؓ کے لئے تو اور بھی یہ درد اور رقت اس وقت پیدا ہو گئی تھی میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (ال عمران : ۳۲) یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موافقت ہو اور مرنا آنحضرت ﷺ کی سنت ہے آپ نے مر کر دکھایا پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے؟ یا کسی اور کیلئے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے۔

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۵۴۰)

۴۷۔ صابر و شاکر بندے کے لئے جنت میں گھر

(حدیث ترمذی کتاب الجناز باب فضل المصیبة ازا احتساب)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بچے کو وفات دیتا ہے تو ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ اس پر فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں ہمارے اللہ! پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کی کلی توڑی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں ہمارے اللہ! پھر وہ پوچھتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے اس صابر شاگرد کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

۴۸۔ لختِ جگر کی وفات پر رحمت اور شفقت کے آنسو

(حدیث بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی ﷺ انا بک لمحزونون)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت تشریف لائے آپؐ کی آنکھوں میں آنسو تھے عبدالرحمن بن عوفؓ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ روتے بھی ہیں؟ اس پر آپؐ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو رحمت اور شفقت ہے آپؐ کے آنسو جاری تھے اور کہتے جاتے تھے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں دل غمگین لیکن ہم وہی کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے اے ابراہیم! تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں۔

۴۹۔ دستی بیعت کرنیوالی صحابیہؓ کا ماتم کے وقت صبر کا

آنحضورؐ کی خدمت میں عہد

(ابوداؤد کتاب الجنائز باب فی النوح)

حضرت اسیدؓ ایک دستی بیعت کرنے والی صحابیہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضورؐ نے بیعت لیتے وقت جو عہد ان سے لیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم حضورؐ کی

نافرمانی نہیں کریں گی ماتم کے وقت نہ اپنا چہرہ نوچیں گی اور نہ واویلا کریں گی نہ اپنا گریبان پھاڑیں گی اور نہ اپنے بال بکھیریں گی یعنی ایسا روڈیہ اختیار نہیں کریں گی جس سے سخت برہمی شدید بے صبری اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہو۔

۵۰۔ صبر کا بہترین بدلہ

حضرت ابو سلمہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی پہ مصیبت آئے تو وہ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھے اور دعا مانگے کہ میرے اللہ میں تیرے حضور اپنی مصیبت کو پیش کرتا ہوں مجھے اس کا بہتر اجر دے اس کے بدلے میں مجھے خیر اور برکت عطا کر پس جب ابو سلمہؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی اے میرے اللہ میرے اہل کو میرے بدلہ میں اچھا قائم مقام عطا کرنا جب ان کی وفات ہوگئی تو حضرت اُم سلمہ نے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھا اور دعا کی کہ میں اپنی مصیبت تیرے حضور پیش کرتی ہوں تو مجھے اس کا بہتر اجر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت اُم سلمہؓ کی شادی آنحضرتؐ سے ہوگئی اور اس طرح بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔

۵۱۔ صبر کی فضیلت

صبر کی فضیلت کے بارے میں اسامہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کی ایک صاحبزادی نے آپؐ کی طرف ایک آدمی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے آپؐ ہمارے گھر تشریف لائیں آپؐ نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ لڑکی کو میرا سلام کہو اور کہنا جو اللہ نے دیا اور جو اللہ نے لیا وہ سب اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ کے علم میں سب کی موت کا وقت مقرر ہے لڑکی کو چاہئے صبر کر لے اور صبر کو ثواب سمجھے۔ اس پر آنحضرتؐ کی صاحبزادی نے آدمی بھیجا کہ خدا کے واسطے حضورؐ و تشریف لاویں آپؐ کھڑے ہو گئے اور آپؐ کے ہمراہ سعد بن عبادہ اور

چند دوسرے صحابی تھے جب وہاں پہنچے تو بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے گود میں لے لیا بچہ نزع کی حالت میں تھا یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو سعدؓ نے کہا یا رسول اللہؐ یہ روٹا کیسا؟ آپ نے فرمایا یہ رحم کے آنسو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں فطرۃً ودیعت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔

(نسائی کتاب الجنائز باب الامر بالا حساب والصر)

صبر کی فضیلت کے بارے میں قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی تو تعزیت کے لئے میرے پاس محمد بن کعب قرظی تشریف لائے اور بسلسلہ تعزیت و تسلی یہ حکایت سنانے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا فقیہ عالم اور عبادت گزار بزرگ شخص تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی جو بہت خوبصورت تھی اور اس کو بہت پیاری تھی بیوی کے مرنے کی وجہ سے اس عالم کو بہت غم ہوا اور اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گھر میں بند ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے پاس کوئی بھی نہ آسکے ایک عورت کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ آئی اور کہا کہ میں ایک اہم فتویٰ پوچھنے کے لئے آئی ہوں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ آئے ہوئے تمام لوگ ملے بغیر چلے گئے لیکن یہ عورت جم کر بیٹھ گئی اور کہا کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گی اس عالم کو گھر والوں میں سے کسی نے جا کر بتایا کہ سب لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن ایک عورت جانے کا نام نہیں لیتی۔ کہتی ہے بالمشافہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے اس عالم نے کہا اچھا اس کو اندر آنے دو اندر آ کر اس نے عالم سے فتویٰ پوچھا میں نے اپنے پڑوسی سے کچھ زیور عاریضہ لیا تھا میں اس زیور کو کافی عرصہ پہنتی رہی اب انہوں نے وہ زیور واپس مانگ بھیجا ہے لیکن مجھے یہ زیور بہت پسند ہے واپس کرنا ہو گا دل تو واپس کرنے کو نہیں چاہتا اس فقیہہ اور عالم نے کہا کیوں نہیں اس زیور کا واپس کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ

اُن کا ہے وہ واپس مانگنے کے حقدار ہیں اور تجھے یہ واپس کرنا ہی پڑے گا یہ جواب سُن کر وہ عورت کہنے لگی میاں اللہ تجھ پر رحم کرے کیا تو اس چیز پر اتنا غم اور سوگ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عاریتہ دی تھی اور اپنی چیز واپس لے لی کیونکہ اس کی امانت تھی اور اس نے اپنا ہی حق واپس لیا ہے اس دانا عورت کی یہ بات سُن کر عالم کی آنکھیں کھل گئیں اسے صبر کی توفیق ملی اور معمول کی زندگی شروع کر دی۔

(مَوْطَا امام مالک کتاب الجنائز جامع الحجیۃ فی المصیبتہ)

۵۲۔ اللہ تعالیٰ کی امانت

ابو عمیرؓ ابھی بچہ ہی تھے کہ حضرت ابو طلحہؓ کی عدم موجودگی میں فوت ہو گئے۔ حضرت اُمّ سلیمؓ نے ان کی رحلت پر صبر و استقلال سے کام لیا خاموشی سے ان کی میت کو کفن پہنا کر ایک طرف رکھ دیا اور گھر والوں کو منع کر دیا کہ حضرت ابو طلحہؓ کو آتے ہی ابو عمیر کی المناک موت کی خبر نہ دیں رات کو ابو طلحہؓ آئے انہیں کھانا کھلایا اور وہ اطمینان سے لیٹ گئے تو ام سلیمؓ نے ان سے پوچھا ”اگر تمہیں کوئی چیز مستعار دی جائے اور پھر واپس لے لی جائے تو کیا اس کا واپس لیا جانا تمہیں ناگوار گزرے گا؟“ حضرت ابو طلحہؓ نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ بولیں تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی تھی اب اس کی طرف سے صبر کرنا چاہئے۔

ابو طلحہؓ نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھا اور ان سے کہا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا بولیں اس لئے تاکہ تم اطمینان سے کھانا وغیرہ کھا لو۔

صبح اٹھ کر ابو طلحہؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا حضورؐ نے حضرت اُمّ سلیمؓ کے صبر و رضا پر ان کی تعریف فرمائی اور نعم البدل کے لئے دعا کی اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عبداللہؓ فرزند عطا فرمایا جس سے ابو طلحہؓ کی نسل چلی۔

۵۳۔ اللہ کی مشیت کے نتائج کو بھلا دینا چاہئے

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپؓ چھینرو کفین سے فارغ ہو کر بدوؤں کی دوڑ کے مقابلے میں شرکت کرنے لگے حضرت نافعؓ نے کہا ابھی تو آپ بیٹے کو دفن کر کے آئے ہیں اور اب بدوؤں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اس پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے جواب دیا اللہ کی مشیت نے جو کام کر دیا اس کے نتائج کو جس طرح بھی ممکن ہو بھلا دینا چاہیے۔

(۲) غزوہٴ اُحد سے واپسی پر حضرت حمنہ بنت جحش نے اپنے عزیز واقارب کا حال پوچھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا

”حمنہ اپنے بھائی عبد اللہؓ پر صبر کرو“

انہوں نے یہ سن کر مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کی اور صبر کیا۔

آنحضرت ﷺ نے پھر فرمایا۔

”حمنہ اپنے ماموں حمزہؓ بن عبدالمطلب پر بھی صبر کرو“

انہوں نے پھر دعائے مغفرت کی اور خاموش رہیں۔

سوگ کی مدت

افسوس اور تعزیت کی حالت تین دن تک قائم رکھی جائے اس کے بعد زندگی

معمول پر آجانی چاہئے البتہ جس عورت کا خاوند مر جائے وہ چار ماہ دس دن تک سوگ منائے یعنی بلا اشد ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے بناؤ سنگھار نہ کرے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے خوشبو کا استعمال نہ کرے خوشی کی تقریبات میں شامل نہ ہو صبر و شکر کے ساتھ ذکر الہی میں دن گزارے۔

۵۴۔ تمام احمدی خواتین کیلئے صبر و رضا کا بہترین نمونہ حضرت مسیح موعودؑ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم (حضرت اماں جان)

حضرت اماں جان اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں رضائے الہی پر تسلیم خم کرنے کا یہ عالم کہ پانچ بچے کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں لیکن بے صبری کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آتا یوں بھی ہوا کہ بچے کی آخری حالت ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے فرماتی ہیں۔

”اب اس کے بچنے کی تو کوئی صورت نہیں پھر میں اپنی نماز کیوں قضا کروں“۔ پھر اطمینان سے نماز ادا کر کے بچے کا حال دریافت فرماتی ہیں اور یہ جواب ملنے پر کہ فوت ہو گیا ہے صبر کے الفاظ ادا کر کے خاموش ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح مرزا مبارک احمد جو آٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے اس وقت صرف زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ”میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں“ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا ”خدا خوش ہو گیا“ جب حضرت اقدس بانئی سلسلہ احمدیہ نے حضرت اماں جان کو بتایا تو بے ساختہ بولیں کہ مجھے اس پاک کلام سے اس قدر خوشی ہے کہ اگر دو ہزار مبارک بھی مرجاتا تو پرواہ نہ کرتی۔

(مجلد تقریب صد سالہ جشن تشکر صفحہ ۶۹)

حضرت مسیح موعودؑ کی وفات کے موقع پر اس صبر و رضا کی چٹان یعنی (اماں جان) نے کمال صبر و تسلیم اور توکل الی اللہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدا کے حضور عرض کی۔

”اے میرے پیارے خدا! یہ تو ہمیں چھوڑتے ہیں مگر تو ہمیں نہ چھوڑو“

بچوں کو اپنے پاس بلا کر بڑے درد اور خوشی سے فرمایا:-

گھر خالی دیکھ کر تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لئے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے انہوں نے آسمان پر تمہارے لئے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے گا۔

(الفضل ۱۹ جنوری ۱۹۶۲ء صفحہ ۱۵)

آج دنیا گواہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی دعاؤں کے خزانہ سے آپ کی اولاد کس قدر مستفیض ہو رہی ہے۔

۵۵۔ صبر و رضا کے ایمان افروز واقعات

نذر محمد نذیر گوئی ضلع گجرات تحریر کرتے ہیں:-

آج سے تقریباً ۳۵-۳۶ سال قبل لاہور میں حضرت ملک غلام فرید صاحب کجیہی M.A. رفیق ابن رفیق جماعت احمدیہ لاہور کے اکابرین اور معزز ترین احباب میں سے تھے اور وہ ہستی تھے جنہوں نے خدا کے کلام کا انگریزی ترجمہ کیا تھا ان کی رہائش ٹمپل روڈ لاہور پر تھی ان کی ایک بیٹی کی شادی تھی صبح پسرور سے بارات آئی تھی خدا کی تقدیر کہ مہندی کی رسم سے فراغت کے بعد اس بیٹی کی سہیلی نے اپنے گھر جانا تھا حضرت ملک صاحب کا بیٹا کرشن بمعہ اپنی بہن (صبح کی دلہن) اور اس کی سہیلی کو کار میں گھر چھوڑنے جا رہے تھے راستہ میں حادثہ ہو گیا کرشن اور سہیلی بال بال بچ گئے تمام خوشیوں کی جگہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے صبح بارات کی آمد تھی بعض احباب نے حضرت ملک صاحب کو مشورہ دیا کہ بارات کو روک دیا جائے لیکن اس صبر و رضا کے پیکر نے جس نے حضرت بانی سلسلہ کے مدرسہ میں تربیت پائی تھی یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور بارات کو آنے دیا ادھر مہندی لگی دلہن کا جنازہ تیار رکھا ہے بارات آتی ہے پیاری بیٹی کو حضرت ملک صاحب اور بہن بھائی اور سارے خاندان والے اور ساری بارات والے ڈولی کی بجائے قبر میں اتارتے ہیں (بعد جنازہ پھر کھانا

کھلایا جاتا ہے اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے روٹین کے مطابق چھوٹی پیاری بیٹی کو بغیر مہندی کے ڈولی میں ڈال کر بارات والوں کے حوالے کیا جاتا ہے اس دردناک حقیقی قلم کا نقشہ دیکھنے والے ہی کھینچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان تھا ایک رفیق ابن رفیق کا اور کس طرح یہ رفیق حضرت بانی سلسلہ اللہ رضاؤں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر تحسین صد تحسین گھر والے ایک ایک فرد پر بچی کی غم زدہ والدہ پر بہنوں پر اور بہنوں کے دیروں پر ملک صاحب کی ساری اولاد پر جس نے اپنے والد کے حکم پر سر تسلیم خم کر دئے اور پھولوں نہ کی بلکہ مددگار ثابت ہوئی اور پھر قربان اس بچی پر جو سادے کپڑوں میں غموں کے پہاڑ اپنے ننھے منے سینہ میں سمیٹ کر صرف اور صرف اپنے والد بزرگ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ڈولی میں داخل ہو گئی اس روئیداد کو امر و اخبار میں تفصیل سے شائع کیا گیا لیکن جماعت احمدیہ کے گھرانہ کا ذکر نہ کیا گیا۔ (الفضل ۷ مارچ ۱۹۸۷)

محترم چوہدری رحمت خاں صاحب (وقات یافتہ) محکمہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو بطور امام بیت لندن تقرری ہوئی ۱۹۶۰ء میں گئے ۱۹۶۳ء میں واپس تشریف لے آئے ان کا جوان ۲۶ سال کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کیلئے ان کے پاس تھا چوہدری صاحب واپس اُس کو وہاں چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ اس کی رہائش بیت الفضل لندن میں تھی بیت کے لان میں صفائی کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے اللہ کو پیارا ہو گیا عزیز می مسعود احمد ۶ سال سے والدین سے جدا تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا مکرم چوہدری رحمت خاں صاحب احمدیہ ہوشل لاہور میں پرنسٹنڈنٹ تھے ان کو اطلاع ملی کہ مسعود اللہ کو پیارا ہو گیا یہ الفاظ کہ ”اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف چلے گئے“ کہے اور احباب کو خطوط لکھنے شروع کر دیئے۔

عزیزی مسعود کی نیکی، تقویٰ اور اخلاص اور لیاقت کی وجہ سے حضرت

چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کو اس سے بہت محبت تھی حضرت چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب بھی ان دنوں لاہور میں تھے دارالذکر لاہور میں پورا خطبہ عزیزی مسعود پر دیا چوہدری رحمت خاں صاحب جب اپنے گاؤں دھیر کے کلاں گجرات گئے تو احمدی - غیر احمدی مرد - مستورات کا ہجوم ان کو ملنے کے لئے جمع ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت بخشی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ گلے لگ کر رونا شروع کرے بہت سنجیدگی اور صبر اور تحمل سے گاؤں والوں کی بے صبری کا مقابلہ کیا جب گھر گئے تو مسعود کی والدہ اور بہنوں نے رورو کر کہا کہ مسعود تو ہمیں بہت پیارا تھا چوہدری صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔

جماعت احمدیہ کی تاریخ میں وفات پر صبر و رضا کے اُن گنت واقعات ہیں۔

۵۶۔ تعزیت کے موقعہ پر غیر شریعی رسوم کی مذمت

ملفوظات جلد پنجم میں حضرت مسیح موعود کی ایک پرانی تحریر کا اقتباس خواتین

کے لئے خصوصی نصاب:-

۱۔ ماتم کی حالت میں جوع فزع اور نوحہ اور سیا پا کرنا اور چھین مارنا اور بے صبری کے کلمات زبان پر لانا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں جاہل مسلمانوں نے دین کو بھلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لئے قرآن شریف میں حکم ہے کہ **فَرِحْنَا بِكُم كَمَا تَفْرِحُونَ** **وَإِنَّا لَنَرِيكُمْ فِيهَا لَمُبَشِّرُونَ** **وَإِنَّا لَنَرِيكُمْ فِيهَا لَمُبَشِّرُونَ** کہیں یعنی ہم خدا تعالیٰ کا مال ہیں اور ملک ہیں اُسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان سے ہے۔

۲۔ ایک سال تک سوگ رکھنا اور نئی نئی عورتوں کے آنے کے وقت یا بعض خاص

دنوں میں سیا پا کرنا اور باہم عورتوں کا سر ٹکرا کر رونا اور کچھ کچھ منہ سے بکواس کرنا اور پھر برابر ایک برس تک بعض چیزوں کا چھوڑ دینا اس عذر سے کہ ہمارے گھر میں یا برادری میں ماتم ہو گیا ہے۔ یہ سب ناپاک رکبیں ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۳۔ سیا پا کرنے کے دنوں میں بے جا خرچ بھی ہوتے ہیں حرام خور عورتیں شیطان کی بہنیں جو ڈور ڈور سے سیا پا کرنے آتی ہیں اور مکرو فریب سے منہ ڈھانپ کر اور بھینسوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیخیں مار کر روتی ہیں ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور اگر مقدور ہو تو اپنی شخی اور بڑائی جتانے کے لئے صدہا روپیہ کا پلاؤ اور زردہ پکا کر برادری وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس غرض سے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ فلاں شخص نے مرنے پر اچھی کر توت دکھائی اچھا نام پیدا کیا سو یہ سب طریق شیطانی ہیں جن سے توبہ کرنا لازم ہے۔

۴۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو دوسرا خاوند کرنا ایسا بُرا جانتی ہے جیسا کہ کوئی بڑا گناہ بھاری گناہ ہوتا ہے اور تمام عمر بیوہ اور رانڈرہ کر خیال کرتی ہے کہ میں نے بہت ثواب کا کام کیا ہے اور پاکدامن بیوی ہو گئی ہوں حالانکہ اس کے لئے بیوہ رہنا سخت گناہ ہے عورتوں کے لئے بیوہ ہونے کی حالت میں خاوند کر لینا نہایت ثواب کی بات ہے ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں بُرے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور نابکار عورتوں کے لعن طعن سے نہ ڈرے ایسی عورتیں جو خدا اور رسولؐ کے حکم سے روکتی ہیں خود لعنتی اور شیطان کی چیلیاں ہیں جن کے ذریعہ شیطان اپنے کام چلاتا ہے جس عورت کو رسول اللہ ﷺ پیارے ہیں اُس کو چاہیے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک بخت خاوند تلاش کر لے اور یاد رکھے کہ خاوند کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ

ہونے کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔

۵۷۔ بعد وفات میت کو کیا شے پہنچتی ہے

حضرت مسیح موعود نے فرمایا دعا کا اثر ثابت ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کی طرف سے حج کیا جاوے تو قبول ہوتا ہے اور روزہ کا ذکر بھی ہے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور یہ جو **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (النجم: ۴۰) فرمایا اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ بھائی کے حق میں دعا نہ قبول ہو تو سورۃ فاتحہ میں **إِهْدِنَا** کی بجائے **إِهْدِنِي** ہوتا۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۲۶۶)

۵۸۔ میت کے لئے ختم اور فاتحہ خوانی

حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا یہ درست نہیں بدعت ہے آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں کہ اس طرح صف بچھا کر بیٹھتے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے۔

خیرات البتہ ہر طرح اور ہر رنگ میں جائز ہے اور جیسے چاہے انسان دے مگر فاتحہ خوانی سے ہمیں نہیں معلوم کیا فائدہ؟ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے میرے خیال میں یہ جو ہمارے ملک میں رسم جاری ہے کہ اس پر کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں یہ طریق شرک ہے غربا اور مساکین کو بے شک کھانا کھلاؤ۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۱۸۰)

۵۹۔ میت کے نام پر قبرستان میں کھانا تقسیم کرنا

حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میت کے ساتھ جو لوگ روٹیاں یکا کر یا اور شے لے کر باہر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور میت کو دفن کرنے کے بعد مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں سب باتیں نیت پر موقوف ہیں اگر یہ نیت ہے کہ اس جگہ مساکین جمع ہو جایا کرتے ہیں اور مردے کو صدقہ پہنچ سکتا ہے ادھر وہ دفن ہوا ادھر مساکین کو صدقہ دے دیا جاوے تاکہ اس کے حق میں مفید ہو اور بخشا جاوے تو یہ ایک عمدہ بات ہے لیکن اگر صرف رسم کے طور پر کیا جاوے تو جائز نہیں کیونکہ اس کا ثواب

مردے کے لئے اور نہ دینے والے کے واسطے کچھ فائدے کی بات ہے۔

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ ۶)

۶۰۔ جس کے ہاں ماتم ہو اس کے ساتھ ہمدردی

حضرت مسیح موعود سے سوال کیا گیا۔ کیا یہ جائز ہے کہ جب کارقضاء کسی

بھائی کے گھر میت ہو جائے تو دوسرے دوست کھانا تیار کریں؟

آپ نے فرمایا نہ صرف جائز ہے بلکہ برادرانہ ہمدردی کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ایسا

(ملفوظات جلد نہم صفحہ ۳۰۴)

کیا جائے۔

۶۱۔ میت کے لئے دعا

حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا میت کے واسطے دعا کرنی چاہئے کہ خدا

تعالیٰ اس کے ان قصوروں اور گناہوں کو بخشے جو اس نے اس دنیا میں کئے تھے اور اس

کے پسماندگان کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے۔ (ملفوظات جلد پنجم صفحہ ۱)

۶۲۔ میت پر رنگدار کپڑے اور پھول ڈالنا پسندیدہ نہیں

حضرت اُمّ طاہرہ کا کفن بالکل سفید کپڑے کا تھا میت پر نہ تو کسی قسم کا رنگدار

کپڑا تھا اور نہ پھول وغیرہ بلکہ لاہور کی بعض خواتین اپنے ساتھ پھول لائی تھیں جس

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے منع فرمادیا اور فرمایا حقیقتاً خدا کے حضور حاضر ہونے کے

وقت سادگی اور صفائی ہی بھجتی ہے۔

(تابعین اصحاب احمد جلد سوم۔ سیدہ اُمّ طاہرہ صفحہ ۱۱۰)

۶۳۔ مُردے کا اسقاط

ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی رسمیں پیدا کر لی ہیں یہ بھی ان میں

سے ایک ہے مردے کے اسقاط میں قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں یہ اصل میں قرآن

شریف کی بے ادبی ہے انسان خدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک سب نظر خدا

پر نہ ہو۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۶۰۵)

۶۳۔ میت کے قتل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں حضرت مسیح موعود نے فرمایا قتل خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے صدقہ دعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ملائوں کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے سو اگر اُسے ہی مردہ تصور کر لیا جائے (اور واقعی ملاں لوگ روحانیت سے مردہ ہی ہوتے ہیں) تو ہم مان لیں گے۔

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۶۰۵ بحوالہ ایڈیٹر البدر)

ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر امید کیسے باندھ لیتے ہیں دین تو ہم کو نبی کریم ﷺ سے ملا ہے اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں صحابہ کرام بھی فوت ہوئے کیا کسی کے قتل پڑھے گئے صد ہا سال کے بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بدعت بھی نکل آئی ہوئی ہے۔

۶۵۔ نماز جنازہ کسی ایسے متوفی کا جو بالجہر مکفر اور مکذب نہ ہو حضرت مسیح موعود نے فرمایا ایسے متوفی کا جو بالجہر مکفر اور مکذب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں کیونکہ علام الغیوب خدا کی ذات ہے۔

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۲۱۵)

۶۶۔ کیا میت کو صدقہ خیرات اور قرآن شریف کا پڑھنا پہنچتا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا میت کو صدقہ خیرات جو اس کی خاطر دیا جاوے پہنچ جاتا ہے لیکن قرآن شریف کا پڑھ کر پہنچانا حضرت رسول کریم ﷺ اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس کی بجائے دعا ہے جو میت کے حق میں کرنی چاہئے میت کے حق میں صدقہ خیرات اور دعا کا کرنا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کی سنت سے ثابت ہے لیکن صدقہ بھی وہ بہتر ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دے جائے کیونکہ اس کے

ذریعہ انسان اپنے ایمان پر مہر لگاتا ہے۔

۶۷۔ مرنے والے کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین عمل ختم نہیں ہوتے

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین عمل ختم نہیں ہوتے اول صدقہ جاریہ دوم ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے سوم ایسی نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

(مسلم) حدیقتہ الصالحین

۶۸۔ قبر پر دعائیں کوئی آیت پڑھنی چاہئے؟

حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں یہ تکلفات ہیں تم اپنی ہی زبان میں جس کو بخوبی جانتے ہو جس میں تم کو جوش پیدا ہوتا ہے میت کے واسطے دعا کرو۔

۶۹۔ قبر کو خانقاہ اور زیارتگاہ نہ بناؤ

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھر میں قرآن کریم، نوافل اور سنتیں پڑھا کرو اس طرح فرمایا میری قبر کو خانقاہ اور زیارتگاہ نہ بناؤ کہ وہاں آکر سجدے کرو اور چڑھاوے چڑھاؤ پھر فرمایا مجھ پر دُرد و دوسلام بھیجا کرو تمہارا دُرد و دوسلام جہاں کہیں بھی تم ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

۷۰۔ قبرستان جانا اور قبر کو پختہ کرنے کے بارے میں جواز

حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا:-

۱۔ نذر و نیاز کے لئے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر سنتیں مانگنا درست نہیں ہاں وہاں جا کر انسان عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے قبروں کے پختہ بنانے کی ممانعت ہے البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت ہو تو حرج نہیں ہے یعنی ایسی

جگہ جہاں سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو اور اس میں تکلفات جائز نہیں ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۰ صفحہ ۹ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

(ملفوظات جلد سوم میت کے مسائل)

۷۱۔ کیا پختہ قبر بنانا جائز ہے؟

ایک بار پھر حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا نیت پر منحصر ہے مثلاً بعض جگہ سیلاب آتے ہیں قبریں بہہ جاتی ہیں بعض جگہ بچو اور کئے قبروں سے مردے نکال لیتے ہیں اگر ایسے وجوہ پیش آجائیں تو پختہ کر دینا مناسب ہے کیونکہ میت کے لئے بھی ایک عزت ہے نمود کے واسطے گنبد بنانا جائز نہیں مگر حفاظت ضروری ہے حضرت رسول کریم ﷺ کی قبر کے گرد پختہ عمارت ہے ایسے ہی بعض اولیاء اور صلحاء کی قبریں پختہ ہیں الہی مصلحت نے ان کے لئے یہی چاہا اور ایسے اسباب مہیا کئے۔

(پرانی نوٹ بک ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۳۱ ذکر حبیب مصنف حضرت مفتی محمد صادق)

۷۲۔ قبہ یا روضہ بنانا

انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ جن وجودوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے ان کا احترام کرنا چاہتا ہے یوں تو جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کی لاش اگر کتے بھی کھا جائیں تو اُسے کیا تکلیف ہوگی لیکن اس سے محبت رکھنے والے زندہ انسان ہوں ان کی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ لاش کی یہ حالت ہو اس لئے وہ اپنے طور پر اس کا احترام کرتے ہیں مگر یہ کوئی شرعی احترام نہیں ہوتا کیونکہ شرعی طور پر ایسا احترام جائز نہیں کیونکہ اس سے شرک پھیلتا ہے بچوں وغیرہ کی قبر پر قبہ نہیں بناتے مگر بزرگوں کی قبر پر قبہ بناتے ہیں کیونکہ ان کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ ان سے کچھ حاصل ہوگا۔

(الفضل یکم مارچ ۱۹۲۷ء - فقہ احمدیہ صفحہ ۲۶۶)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے فرمایا:-

اگر قبر کی حفاظت کے لئے ضروری نہ ہو تو قبہ وغیرہ کی ضرورت نہیں اور اگر یادگار کے خیال سے قبہ بنایا جائے تو میں ایسی یادگار کا قائل نہیں کہ اس کے لئے قبہ بنانا ضروری ہو۔ یہی خیال ہے جس سے آگے شرک پیدا ہوتا ہے پس حفاظت تو ٹھیک ہے لیکن یادگار ٹھیک نہیں کیونکہ قبر کی اس رنگ میں یادگار ہی وہ چیز ہے جو آگے شرک تک پہنچا دیتی ہے بے شک ہم تو احترام کے لئے قبے بنائیں گے لیکن دوسرے لوگ اس احترام کو اس حد تک پہنچا دیں گے کہ جس سے شرک شروع ہو جائے گا۔ رسول کریم ﷺ کے مزار پر قبہ بنایا گیا ہے وہ بھی حفاظت کے لئے نہ مگر اس لئے کہ مزار کی عزت کی جائے۔ (الفضل کلیم مارچ ۱۹۲۷ء - فقہ احمدیہ ۲۶۵-۲۶۶)

۷۳۔ زیارتِ قبور میں ثواب

زیارتِ قبور کے متعلق حضرت مسیح موعود نے فرمایا قبرستان میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیارتِ قبور کے لئے ایک سنت ہے یہ ثواب کا کام ہے اور اس سے انسان کو اپنا مقام یاد آجاتا ہے انسان اس دنیا میں مسافر آیا ہے آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے۔

چاہئے کہ انسان اپنے لئے بھی خدا سے دعا کرے اور اہل قبر کے واسطے بھی خدا سے دعا کرے انسان زندہ ہو یا مردہ ہر حال میں دعا کا محتاج ہے درود شریف جو رسول کریم ﷺ پر پڑھا جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی برکات نازل کرے اور اپنی رحمتیں بھیجے۔ قبور کے دیکھنے سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اپنا انجام یاد آجاتا ہے۔ (ذکر حبیب مصنف حضرت مفتی محمد صادق صفحہ ۲۳۶)

۷۴۔ قبروں سے فیض قرآن پاک سے ثابت نہیں

حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ

آدمی قبروں پر بیٹھ کر اُن سے فیض لے انسان کو چاہئے امن کا راستہ اختیار کرے اولیاء اللہ ایک طرح زندہ ہیں مگر زندگی کے یہ معنی نہیں کہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد تو سب مدارج ہو جاتی ہے مگر کوئی انسان خدا نہیں بن جاتا فرمایا ہم نے خدا کے قول ”نحن اقرب الیہ من جبل الورد یعنی ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں“ کو آزمایا۔ ہم بات کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے ہماری جماعت کے کئی آدمی بھی اس میں شامل ہیں خدا پر غیر ممکن نہیں کہ وہ اُن پر الہام کا دروازہ کھول دے انسان کو چاہئے کسی انسان پر توقع نہ رکھے سب بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہئے۔ (صفحہ ۲۲۳-۲۲۴)

الہام ”الْیَسَّ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ“ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے

کافی نہیں بالفاظ دیگر خدا داری ہمہ چیز داری چہ غم داری

۷۵۔ سوئم چالیسویں ختم قرآن آیت کریمہ اور باداموں کے ختم

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اس

موضوع پر فرماتے ہیں ہم وہی ختم مانتے ہیں جو ختم رسول کریم ﷺ سے ثابت ہو اور نہ

اس کے سوا کوئی عقیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں اصولی اختلاف ہے بعض دفعہ نیکی

کے نام پر غلط رسمیں رائج ہو جاتی ہیں اور وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا

کرتی ہیں امر واقعہ یہ ہے اور اس عقیدے پر ہم بڑی شرح صدر سے قائم ہیں اس میں

ہم کبھی تبدیلی نہیں کر سکتے کہ آنحضرت ﷺ پر دین کامل ہو گیا اور آپ کا اسوۂ حسنہ ہی

ہمیشہ کے لئے تقلید کے لائق ہے یا ان صحابہ کا اسوۂ حسنہ جنہوں نے آپ سے تربیت

پائی ان کے سوا تو قرآن میں اور کسی کا اسوۂ ماننے کا کہیں حکم نہیں ہے نکال کر دکھا دیجئے

حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ آخری نمونہ ہیں جن کی پیروی لازمی قرار دی گئی ہے کسی

اور پیروی تب ہم کریں گے اگر وہ حضور کی پیروی کرے گا ورنہ نہیں کریں گے تو یہ

ساری چیزیں جن کا ذکر ہے سوئم، چالیسواں گھنٹیوں پر قرآن پھونکنا، ختم قرآن، باداموں پر پڑھنا ان میں سے ایک بھی چیز حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی اور اس بارے میں شیعہ، سنی روایات میں اختلاف ہی کوئی نہیں متفق علیہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آپ کے صحابہؓ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ رسمیں نہیں تھیں تو قرآن کو ان سے بہتر کون سمجھتا تھا؟ قرآن سے زیادہ پیار کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے نعوز باللہ من ذالک قرآن کے استعمال کا اچھا طریق بتانے والے اس وقت نہیں تھے اب آگئے؟ اس کو ہم کسی صورت مان ہی نہیں سکتے جو مرضی آپ کہیں۔ آپ کہتے ہیں نعوز باللہ تم قرآن کے دشمن ہو اگر یہ ختم کرنا قرآن کی دشمنی ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ پر زبان کھلے گی وہ بھی تو نہیں کرتے تھے یہ گھنٹیاں اور بادام تنزل کی علامتیں ہیں جب قومیں بگڑتی ہیں تو رسم و رواج بن جایا کرتی ہیں اتنی بات تو غالب بھی سمجھ گیا تھا۔ بقول غالب۔

ہم موجد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم
ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

اگر تم واقعی توحید کے قائل ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہی ہے کہ تم موجد ہو تو موجد کا یہ فرض ہے رسم و رواج کو مٹائے اور کاٹ دے ہمارا کیش ہے ترک رسوم اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر مٹی ہوئی امتوں کی علامتیں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں گی۔ امتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں پھر ایماں نہیں ہوتا۔ کسی کے ہاتھ کوئی تھوڑا ایمان کا ٹکڑا آ گیا کسی کے کچھ ٹکڑا آ گیا کسی نے بہت اخلاص دکھایا تو باداموں پر پھونک دیا کسی نے کم دکھایا تو کھائی ہوئی گھنٹیوں پر پھونک دیا سوچیں تو سہی کہ آپ کا دین کیا بن رہا ہے قرآن والا دین تو نہیں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا دین تو نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد

مصطفیٰ ﷺ کا تو نہ سوئم ہوا نہ گیارہویں ہوئی نہ چالیسواں ہوا۔ آپ کے کسی خلیفہ کا نہیں ہوا آپ کے کسی صحابی کا نہیں ہوا تو آج کون حق رکھتا ہے ان رسوں کے علاوہ رسمیں بنانے کا جو آپ کے زمانے میں نہیں تھیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ قوم نے اگر زندہ ہونا ہے تو واپس جانا پڑے گا اس زمانے میں لوٹنا پڑے گا جو زندگی کا زمانہ تھا اس روشنی میں جانا پڑے گا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کے نور کی روشنی تھی باقی سب اندھیرا تھا۔

(مجالس عرفان کراچی)

۷۶۔ مردے کو قرآن بخشنا

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں جہاں تک قرآن کریم ختم کروانے کا تعلق ہے اس کی سنت نبوی سے کوئی سند ثابت نہیں ہوتی یہ محض رسم ہے جس قرآن کریم سے ساری عمر کوئی تعلق نہیں رہا تلاوت میں کرتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں اور مردے کو قرآن بخشنے ہیں جس کو خود پڑھنا نہیں تو اس کی خاطر بخشنا بھی ثابت نہیں ہے جو چیز سنت سے ثابت نہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے قرآن کو رسماً جس رنگ میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہمارے نزدیک یہ دین کو بگاڑنے کے مترادف ہے آپ نے فرمایا گھر گھر سپارے بانٹ کر کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کو پڑھ کر بخش دو۔ قرآن کریم تو زندوں کے لئے ہے نہ کہ مردوں کے لئے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے قرآن کریم تو زندوں کے لئے ہے تاکہ زندہ لوگ اسے پڑھ کر اور اس کی تعلیم پر عمل کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں نہ کہ مردوں کے لئے۔ مردوں سے اس کتاب کا کیا تعلق ہے۔ جو زندوں کی کتاب تھی اس کو مردوں کی کتاب میں تبدیل کرنا ظلم ہے۔

(مجالس عرفان کراچی)

۷۷۔ کسی کے فوت ہونے پر گھر والوں کو
کھانا کھلانے کے رواج کی شرعی حیثیت

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے فوت ہونے پر چند دن ایسے آتے ہیں کہ ان دنوں میں ملنے والے اور تعزیت والے بہت آتے ہیں انتظام کی مشکلات اور بسا اوقات فوت ہونے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نقدی پیچھے نہیں چھوڑی ہوتی اُس وقت ان کے بچوں اور بیویوں کے لئے پیسے مانگنا اور گھر کے اخراجات چلانا یہ مزاج کے خلاف بات ہے اس لئے وہ کھانا تعاون باہمی کا اظہار ہے اگر دکھاوے سے پاک ہے۔ مناسب کھانا جو ایسے موقعوں کے لئے مناسب ہو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض دفعہ چاول بھی ساتھ بھیج سکتے ہیں اس لئے کہ ان دنوں بعض بیمار ہوتے ہیں اُن کے کام آجائیں اور کچھ دن کے بعد اگر میٹھا بھی بھیج دیں تکلف سے پاک رہ کر تو منع نہیں ہے لیکن جہاں بھی یہ رسمیں تکلف میں داخل ہو جائیں اور سوسائٹی پر بوجھ بن جائیں وہاں منع کرنا پڑے گا۔ حد اعتدال میں رہ کر کریں اسلام کی اصل تعلیم حد اعتدال ہے۔

(جالس عرفان کراچی)

۷۸۔ کسی فوت شدہ عزیز کو ثواب کس طرح پہنچایا جائے

فرمایا آنحضرت ﷺ کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا ہو اُن کو اُس کی موت کے جاری رکھنا جائز ہے اگر زندگی میں قرآن نہیں پڑھتا مرنے کے بعد اُسے بخشوایا جائے تو یہ لغو بات ہے ایک شخص نے حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں صدقہ و خیرات بہت کیا کرتی تھی اس کی خواہش تھی کچھ دینے کی لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گئی تو میرے لئے کیا حکم ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم اس کی طرف سے صدقہ دو اس کا ثواب

اللہ تعالیٰ اس کو دے گا یعنی وہ نیکی کی نیت کرنے والی تھیں لیکن موت حائل ہو گئی اب اس کو جاری رکھنا منع نہیں اس لئے جماعت میں اپنے بزرگوں کی طرف سے چندہ دینا جائز سمجھا جاتا ہے اور اس کو کثرت سے رواج دیا جاتا ہے چنانچہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی طرف سے چندے دیتے ہیں اس لئے کہ وہ دیتے تھے لیکن کوئی یہ کہے کہ نادر ہند کا چندہ میں دینا شروع کر دوں اس کا اُسے ثواب ملے گا تو یہ لغوبات ہے ایک آدمی خود تو ساری عمر چندہ نہ دیتا ہو اور اس کا بچہ مخلص بن جائے اور کہے میں اپنے باپ کے چندے کو پورا کروں گا تو وہ چندے اسی بچہ کے نام لگیں گے اس کے نادر ہند بزرگ کے نام نہیں لگیں تو جواز اس بات کا ہے کہ کسی سے جو نیکی ثابت ہو خصوصاً جو منفعت بخش نیکی ہو اس کو آگے جاری رکھنا جائز ہے اور اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔

(مجالس عرفان بجنہ اماء اللہ ضلع کراچی)

۷۹۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا پکانا

بعض لوگ کسی وفات یافتہ عزیز کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے ایک خاص دن مقرر کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بعض لوگ متواتر چالیس دن تک کھانا کھلاتے ہیں اس بارے میں حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا۔

طعام کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے گزشتہ بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر اگر طعام پکا کر کھلایا جائے تو یہ جائز ہے لیکن ہر ایک نیت پر موقوف ہے اگر کوئی شخص اس طرح کے کھانے کے واسطے کوئی خاص تاریخ مقرر کرے اور ایسا کھانا کھلانے کو اپنے لئے قاضی الحاجت خیال کرے تو یہ ایک بُت ہے اور ایسے کھانے کا لینا دینا سب حرام اور شرک میں داخل ہے۔ (اخبار البدر ۱۸ اگست ۱۹۰۷ء)

۸۰۔ عرس منانا

آج کل خانقاہوں پر عرس منانے کا بڑا رواج ہے ان موقعوں پر قبروں کے

طواف کئے جاتے ہیں ان پر غلاف چڑھائے جاتے ہیں قبروں کو بوسہ دیا جاتا ہے
طوافیں بلو اگر گیت سنے جاتے ہیں اس بارے میں حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:-

”شریعت تو اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ آنحضرتؐ نے دیا ہے اُسے لے
لے اور جس بات سے منع کیا ہے اُس سے ہٹے۔ لوگ اس وقت قبروں کا طواف
کرتے ہیں ان کو مسجد بنایا ہوا ہے عرس وغیرہ ایسے جلسے نہ منہاج نبوت ہے نہ طریق
سنت۔ (ملفوظات جلد پنجم صفحہ ۱۶۵)

۸۱۔ بارہ وفات

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے عرس میں خواہ
بنی کریم علیہ السلام کا ہی ہو بدعت نظر آتی ہے حضرت مسیح موعودؑ نے کبھی بارہ وفات کا جلسہ
اپنے گھر میں ہرگز نہیں کیا غرض میں اپنی زندگی میں چند دنوں کے لئے بدعت کو گوارا
نہیں کر سکتا اور ایسے امور میں بدعت کے خطرناک زہروں سے بچنے کا لحاظ رکھو۔

(۲۸/۲۱ فروری ۱۹۱۳ء)

۸۴۔ قبروں پر پھول چڑھانا

بعض لوگ قبروں پر پھول رکھنے یا پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں اس
بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے فرمایا:-

اس سے میت کی روح کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی اور یہ ناجائز ہے اس کا کوئی اثر
قرآن وحدیث سے ثابت نہیں اس کے بدعت اور لغو ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(بدر ۱۲ اگست ۱۹۰۹ء)

۸۳۔ قبروں پر چراغ جلانا

ایک رسم جہالت کی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بزرگوں کے مزار پر رات کو
چراغ جلاتے ہیں یہ ہندووانہ اور مشرکانہ بدعت ہے آنحضرت علیہ السلام نے اس منع فرمایا

ہے۔

حدیث :- ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اور ان پر جو قبروں پر مسجدیں بناتے اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔ (ترمذی)

۴۔ حضور ﷺ نے پہلے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو پھر فرما دیا اچھا اب کر لیا کرو۔ پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ بتازہ بت پرستی سے ہٹے تھے تا وہ پھر اس عادت کی طرف عود نہ کر آئیں پھر جب دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمال کو پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے شرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تو اجازت دے دی۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۲۵۳-۲۵۴)

۸۴۔ قبر میں سوالات کی زبان اور کیفیت

زبان : الہام ہمیں انگریزی، فارسی، اردو اور عربی سب زبانوں میں ہوئے فرشتہ بھی ہر زبان بول سکتا ہے۔

کیفیت : کیفیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا مرنے کے بعد مردے کا تعلق زمین سے ضرور رہتا ہے مومن کا تعلق ایک آسمان سے ہوتا ہے اور ایک زمین سے۔ اصل حساب کتاب تو برزخ میں ہو جائے گا مگر مقابلہ کرانا باقی رہ جائے گا وہ حشر میں ہوگا ہزاروں انبیاء، دجال، کذاب، کفار اور ملعون وغیرہ خطاب پائے گئے قیامت میں اس لئے حشر ہوگا کہ ان کی کرسی پر بٹھا کر اور مکذوبوں کو ذلت کا عذاب دے کر دکھلایا جائے گا کہ دیکھو کون صادق اور کون کاذب تھا۔

(ملفوظات جلد دوم صفحہ ۶۳)

۸۵۔ کیا روحوں کا قبر سے تعلق ہوتا ہے؟

حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ارواح کا قبور سے تعلق ہے اور ہم ذاتی تجربہ

کی بنا پر کہتے ہیں کہ مُردوں سے کلام ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے کشفی قوت اور جس کی ضرورت ہے ہر شخص کو یہ بات حاصل نہیں روح کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور روح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اُسے ایک مقام ملتا ہے۔

(ذکر حبیب مصنفہ حضرت مفتی محمد صادق صفحہ ۱۸۷)

حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ انسان کشفی طور سے گذشتہ روحوں سے مل سکتا ہے مگر اس کے لئے ضروری امر ہے کہ روحانی مجاہدات کئے جائیں بیشک ان سے مفید باتیں دریافت کر سکتا ہے مگر اس کیلئے بہت سے مجاہدات کی ضرورت ہے جو اس زمانے کے لوگوں سے نہیں ہو سکتے جب ہی وہ ایسی باتوں سے انکار کرتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ انسان خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں مُردوں سے باتیں کر سکتا ہے چنانچہ حضرت مسیح سے میری ملاقات ہو چکی ہے حضرت رسول کریم ﷺ سے بھی ایسا ہی اور اہل قبور سے میں نے ملاقات کی۔

یہ بات تو سچ ہے مگر ہر ایک کے لئے میسر نہیں انسان کے قلب کی حالت کچھ ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے عجائبات ڈال رکھے ہیں جیسے کنویں کو کھودا جائے تو آخر بہت ہی محنت کے بعد مصفا پانی نکل آتا ہے اسی طرح جب تک مجاہدہ پورے طور سے انتہا تک نہ پہنچے صحیح اور صاف خیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

(ذکر حبیب مصنفہ حضرت مفتی محمد صادق صفحہ ۴۱۵)

۸۶۔ قبر میں سوال و جواب روح سے ہوتا ہے یا جسم میں

وہ روح واپس ڈالی جاتی ہے؟

حضرت مسیح موعود نے فرمایا:-

اس پر ایمان لانا چاہئے کہ قبر میں انسان سے سوال و جواب ہوتا ہے لیکن

اس کی تفصیل اور کیفیت کو خدا پر چھوڑنا چاہئے یہ معاملہ انسان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے

وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے پھر قبر کا لفظ وسیع ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی حالت بعد الموت میں جہاں خدا سے رکھتا ہے وہی قبر ہے خواہ دریا میں غرق ہو جاوے خواہ جل جاوے، خواہ زمین پڑا رہے دنیا سے انتقال کے بعد انسان قبر میں ہے اور اس سے مطالبات اور مواخذات جو ہوتے ہیں اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انسان کو چاہئے کہ اُس دنیا کے لئے تیاری کرے نہ کہ اس کی کیفیت معلوم کرنے کے پیچھے پڑے۔ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۶۰)

۸۷۔ مُردوں کو سلام کرنا اُن کا سننا
حضرت مسیح موعود نے فرمایا:-

السلامُ علیکم یا اہل القبور کہنے پر وہ سلام کا جواب و علیکم السلام تو نہیں دیتے خدا وہ سلام جو ایک دعا ہے پہنچا دیتا ہے اب ہم جو آواز سنتے ہیں اس میں ہو ایک واسطہ ہے لیکن یہ واسطہ مُردے اور ہمارے درمیان نہیں لیکن السلام علیکم میں خدا تعالیٰ ملائکہ کو واسطہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح دُرود شریف ہے کہ ملائکہ آنحضرت ﷺ کو پہنچا دیتے ہیں۔

بدر ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۶۱)

۸۸۔ مُردہ کی آواز

خدا تعالیٰ کی آواز تو آتی ہے مگر مُردوں کی نہیں آتی اگر کبھی کسی مردے کی آواز آتی ہے تو خدا تعالیٰ کی معرفت یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر اُن کے متعلق دے دیتا ہے اصل یہ ہے کہ کوئی خواہ نبی ہو یا صدیق یہ حال ہے ”اَسْ رَاکَ خَبْرُ خَدِّ خَبْرُ شَازِیْمَاةٍ“ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں اس لئے فرماتا ہے ”فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ“

(فتاویٰ احمدیہ صفحہ ۱۱۳)

۸۹۔ سماع موتی کے بارے میں جماعت احمدیہ کا مسلک

ہمارے نزدیک فوت شدہ اس دنیا کے رہنے والوں کی باتیں براہ راست نہیں سن سکتے البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں کے رہنے والوں کی باتیں ان تک پہنچا سکتا ہے اور بعض اوقات مصلحت کی بنا پر پہنچانا بھی ہے۔ اسی طرح مرنے والے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور توفیق کے مطابق دنیا والوں کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب امور کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ کے ساتھ ہے اس لئے اس کے متعلق وہی طریق اختیار کرنا چاہئے جس کی اجازت شریعت نے بالوضاحت دی ہے مثلاً ان کے حق میں دعا کرنا انہیں ثواب پہنچانے کے لئے رسم و رواج سے بچ کر صدقہ و خیرات کرنا اظہار تعلق کا بہترین ذریعہ ہے اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مرنے والوں کو بھی اس کی اطلاع کر دے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے پسماندگان کے لئے دعا کریں گے براہ راست مردوں کو مخاطب کرنا کہ وہ اس کیلئے دعا کریں یا اس کا یہ کام کر دیں ایک رنگ کا شرک ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۶۰)

اللہ تعالیٰ مردوں کو آوازیں سنا سکتا ہے کے متعلق حضرت مصلح موعود نے فرمایا بیشک انسان مردوں کو آواز نہیں سنا سکتا اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے یعنی ان کو آواز اللہ تعالیٰ سنا تا ہے بندہ نہیں سنا سکتا چنانچہ قبر پر جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کی روح کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے لئے آج فلاں شخص نے دعا کی ہے پس بے شک وہ خود اپنی آواز اس کو نہیں سنا سکتا مگر اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ (الفضل ۳۰، مئی ۱۹۴۳ء)

۹۰۔ زندوں کو بھی مرنے والے کے حالات بتائے جاتے ہیں
عرض کیا گیا اگر مرنے والے کو اس کے لواحقین کے حالات بتائے جاتے

ہیں تو کیا اس کے لواحقین کو بھی کبھی مرنے والے کے حالات بتائے جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بتانے کا سوال ہے مرنے والے کو بھی زندوں کے حالات بتائے جاتے ہیں اور زندوں کو بھی مرنے والوں کے حالات بتائے جاتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ زندوں کو کبھی کبھار کوئی بات بتائی جاتی ہے اور مرنے والے کو اکثر اپنے لواحقین کے حالات بتائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لئے رنج و غم اور مصائب کا موجود رہنا ضروری ہے تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا موقع ملتا رہے اور اس کا قلب دنیوی آلائشوں سے منزہ رہے اسی لئے زندوں کو مرنے والوں کے بہت کم حالات بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہر حالت میں روبرو خدا رہیں اور دنیا کی محبت اُن پر سرد رہے لیکن جنت میں چونکہ اس قسم کے علاج کی ضرورت نہیں اس لئے جنتیوں کو جلد جلد اپنے لواحقین کے حالات بتائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں اگر جلد خبریں نہ پہنچیں تو ان کے دل مغموم ہو جائیں اور ان پر رنج کی کیفیت طاری ہو جائے جو جنت کے مناسب حال نہیں پس چونکہ ان کا دل خوش لکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے انہیں جلد جلد خبریں دی جاتی ہیں اور دنیا میں رہنے والوں کا چونکہ امتحان لیا جاتا ہے اس لئے انہیں مرنے والوں کے بہت کم حالات بتائے جاتے ہیں۔

۹۱۔ جنتیوں اور دوزخیوں کو حال بتانا

عرض کیا گیا کہ صرف جنتیوں کو حالات بتائے جاتے ہیں یا دوزخیوں کو بھی۔ فرمایا:۔ صرف جنتیوں کو اللہ تعالیٰ حالات بتاتا ہے دوزخیوں کو نہیں بتاتا کیونکہ دوزخی تو اس کے غضب کے نیچے ہوتے ہیں ہاں بعض دفعہ ان کو بھی کوئی بات پہنچا دیتا ہوگا مگر وہ ایسی ہی ہوتی ہوگی جس سے ان کا عذاب اور زیادہ ہو مثلاً انہیں بتایا جاتا ہوگا کہ تمہارا فلاں رشتہ دار بھی کافر ہو گیا اور ہمارے عذاب کے نیچے آ گیا تمہارے فلاں

دوست کو بھی شیطان نے درغلا لیا تمہارا فلاں عزیز بھی شرک میں ترقی کر گیا اور ہمارے عذاب میں گرفتار ہو گیا غرض انہیں ایسی ہی خبریں پہنچائی جاتی ہوگی جو ان کے عذاب کو اور بھی بڑھانے والی ہوں۔

الفضل ۳۰ مئی ۱۹۳۳ء
(مجلس عرفان حضرت مصلح موعود)

۹۲۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا
قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔

الفضل ۱۸ مارچ ۱۹۱۶ء

حدیث سے ثابت ہے حضرت امام بخاریؒ اپنے رسالہ رفع الیدین میں یہ حدیث لائے ہیں۔

ترجمہ : یعنی حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں ایک رات آنحضرت ﷺ گھر سے باہر تشریف لے گئے انہوں نے اپنی خادمہ حضرت بریرہؓ کو پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھو حضورؐ کدھر جاتے ہیں چنانچہ بریرہؓ نے واپس آ کر بتایا کہ حضورؐ جنت البقیع گئے تھے اور وہاں حضورؐ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی صبح حضرت عائشہؓ نے حضورؐ سے پوچھا کہ آپ رات کس لئے باہر گئے تھے تو آپؐ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں جنت البقیع میں مدفون اپنے صحابہ کے لئے دعا کروں۔ (فقہ احمدیہ صفحہ ۲۵۹)

۹۳۔ قبر میں کیسا جسم ملے گا

دین حق میں یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی فلاسفی ہے کہ ہر ایک قبر میں ہی ایسا جسم مل جاتا ہے کہ جولنت اور عذاب کے ادراک کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے ہم ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسم مادے سے تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ فانی جسم تو کالعدم ہو جاتا ہے اور نہ کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ درحقیقت یہی جسم قبر میں زندہ ہوتا ہے اس لئے بسا اوقات یہ جسم جلایا بھی جاتا ہے اور عجائب گھروں میں لاشیں بھی رکھی جاتی ہیں اور

مدتوں تک قبر سے باہر بھی رکھا جاتا ہے اگر یہی جسم زندہ ہو جایا کرتا تو البتہ لوگ اس کو دیکھتے مگر بایں ہمہ قرآن سے زندہ ہو جانا ثابت ہے لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ کسی اور جسم کے ذریعہ سے جس کو ہم نہیں دیکھتے انسان کو زندہ کیا جاتا ہے اور غالباً وہ جسم اسی جسم کے لطائف جو ہر سے بنتا ہے تب جسم ملنے کے بعد انسانی قوی بحال ہوتے ہیں اور یہ دوسرا جسم چونکہ پہلے جسم کی نسبت نہایت لطیف ہوتا ہے اس لئے اس پر مکاشفات کا دروازہ نہایت وسیع طور پر کھلتا ہے۔ (روحانی خزائن جلد ۱۳ کتاب البریہ صفحہ ۷۰)

۹۴۔ لطیف جسم

فرمایا ”بعد الموت انسان کو ایک اور جسم عطا ہوتا ہے جو اس جسم کے علاوہ ہے وہ ایک نورانی، جلالی لطیف جسم ہوتا ہے شہداء کے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ وہ فوراً داخل جنت ہو جاتے ہیں دوسرے مومن بھی۔ خدا کی راہ میں جو لوگ کسی قسم کی قربانی کرتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں وہ داخل جنت ہو جاتے ہیں مگر ایک دن تجلی عظیم کا بھی ہے جس میں حشر اجساد ہوگا۔

لطیف روحانی جسم کے متعلق ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ عین بیداری کی حالت میں مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اسی طرح جیسا کہ زندوں کے ساتھ۔

ایسا ہی رسول کریم ﷺ کو معراج بھی ایک لطیف روحانی جسم کے ساتھ عین بیداری کی حالت میں ہوا۔

ذکر حبیب صفحہ ۲۳۸-۲۳۹

(حضرت مفتی محمد صادق پرانی نوٹ بک ۱۹۰۵ء)

۹۵۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کیا یہی خاک کی جسم زندہ کیا جائے گا؟

مرنے کے بعد یہ جسم زندہ نہیں ہوگا اگر یہ جسم زندہ ہو تو مصیبت پڑ جائے کیونکہ مرنے کا پتہ نہیں کب مرنا ہے کوئی سو سال کا بڑھا بھی مر سکتا ہے تو کیا اسی جسم

کے ساتھ زندہ ہوگا بے چارہ! کوئی اندھا، کانا، لولا، لنگڑاگر سکتا ہے تو اس طرح زندہ ہو گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جسم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا لیکن اس کے اندر جو روح ہے اسکو ایک جسم عطا کیا جائے گا حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بدن سے ایک اور روح نکلے گی اور وہاں بھی روح اور بدن کا رشتہ اسی طرح قائم رہے گا۔

(مجلس عرفان حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ ۲۰۰۰ء ماہنامہ خالد)

خواجہ اطہر ظہور بٹ صاحب کا مضمون بشکریہ ”لاہور“ ۲۰ مئی ۲۰۰۰ء

۹۶۔ موت کو یاد رکھنا

جس شخص نے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیا کہ میرا انجام ہر حالت میں موت ہے اور خوب جان لیا کہ میری آخری قرار گاہ ہے۔ منکر و نکیر میرے موکل ہیں اور میدان قیامت میں مجھے بہر حال حاضر ہونا ہے اور جنت و دوزخ میں سے ایک نہ ایک جگہ میرا ٹھکانہ ہو کر رہے گا۔ اُس کیلئے کوئی اندیشہ موت کے اندیشے سے بڑھ کر اہم نہ ہوگا۔ حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ ”دانا وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب اور مسخر کر لیا اور اُن اعمال میں مصروف ہو گیا جو موت کے بعد کام آئیں گے“ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے گا وہ لامحالہ اُس کے زادِ راہ کی تیاری میں زیادہ زور شور سے مشغول رہے گا۔ یہی وہ شخص ہوتا ہے جو مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو باغات بہشت کے ایک باغ تر و تازہ کی مانند پاتا ہے۔ جبکہ موت کو بھول جانے والا شخص جب قبر میں اترتا ہے تو زادِ آخرت سے خالی ہاتھ ہونے کے باعث یوں ہوتا ہے گویا دوزخ کے مہیب غاروں میں سے کسی غار میں اتر گیا ہو۔ اسی لئے موت کو یاد رکھنا بہت بڑے فضائل میں شمار کیا گیا ہے۔

۹۷۔ غارت گر لذات چیز

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اے لوگو! دنیا کی لذات میں سرشار ہوئے

جاتے ہو۔ اُس چیز کو اکثر یاد کرتے رہا کرو جو غارت گر لذات ہے یعنی ”موت“۔ اور فرمایا اگر ڈھور ڈنگروں اور چرندوں اور چوپاؤں کو بھی موت اور اس کے حال سے اتنی آگاہی ہوتی جتنی کہ تمہیں ہے تو کسی بھی انسان کو فریہ اور صحت مند جانور کا گوشت نصیب نہ ہوتا یعنی سب جانور اُسی کی یاد میں سوکھ کر کاٹنا ہو جاتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضورؐ سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص جام شہادت نوش کئے بغیر شہیدوں کے رتبہ کو پہنچ سکے گا؟ فرمایا ہاں وہ جو موت کو دن میں کم سے کم بیس مرتبہ یاد کرتا ہو۔ حضورؐ کا گذر ایک قوم کے نزدیک سے ہوا۔ ہر شخص ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا اور تہقے بلند کر رہا تھا آپؐ نے اُن لوگوں کو کہا کہ تم پر لازم ہے کہ اپنی مجلس میں ذکر ہی اُس شے کا کرو جو تمام لذتوں کو منغض کر دیتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”موت“ ہے

جناب انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ موت کو بہت یاد کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں صرف دنیا ترک کرنے کی تحریک نہیں کرتی بلکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے اور فرمایا کہ لوگوں کو پند و نصیحت کے سلسلہ میں یہی کافی ہے۔ کہ انہیں موت کی یاد دلاتے رہیں۔ صحابہؓ نے حضورؐ کے سامنے ایک شخص کی بے حد تعریف کی۔ آپؐ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اُس کا دل موت کے بارے میں کیسا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ موت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے اُسے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا تو پھر وہ ایسا نہیں جیسا کہ تم بتا رہے ہو۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں دس آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ بزرگ ترین اور کریم ترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ دنیاوی شرف اور کرامت آخرت تو انہیں لوگوں کا حظ ہے جو موت کو بہت یاد کرتے ہیں اور اُس جہان کے لئے زاہراہ جمع کرنے

میں حریص و بے قرار ہیں۔ ایک عورت نے حضرت عائشہؓ سے اپنے دل کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں بے حد سخت دل واقع ہوئی ہوں۔ اس کا کیا علاج کروں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرتی رہا کرو۔ اُس عورت نے اس پر عمل کیا تو سختی دل جاتی رہی۔ جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئی تو انمول مشورے کا شکریہ ادا کیا۔ ربیع غنیمؓ نے گھر کے اندر ایک قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی کئی مرتبہ اُس میں لیٹا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سے موت کی یاد ہر دم تازہ رہتی ہے۔

جو تیری یاد سے اک لمحہ بھی رہوں غافل

تو مجھ پہ خواہش جنت حرام ہو جائے

رسول کریمؐ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ”سچ بتاؤ کہ کیا موت تمہارے لئے لکھی ہوئی نہیں ہے؟ اور یہ جنازے جو لوگ اپنے کندھوں پر لئے جاتے ہیں کیا ان مسافروں کے نہیں جنہیں پھر کبھی واپس نہیں آنا؟ کیا یہ لوگ ان اہل جنازہ کو خاک میں ملا کر ان کی میراث خود نہ کھانے لگیں گے؟ اور اس حقیقت سے غافل نہ ہو بیٹھیں گے کہ یہی راہ خود انہیں بھی پیش ہے۔“

۹۸۔ طول اہل کا شکار

پس موت کو یاد نہ کرنا اکثر و بیشتر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ طول اہل کا شکار ہوتے ہیں یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھے رہتے ہیں اور یہ طول اہل ہی دراصل تمام فسادوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جس شخص نے اپنے دل میں یہ تصور کر رکھا ہو کہ اس کی عمر بہت طویل ہوگی اور مدت دراز تک اُسے موت نہ آئے گی اس سے دین کا کوئی کام سرانجام نہیں پاسکتا کیونکہ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصہ پڑا ہے دینی کام جب چاہوں گا کر لوں گا۔ ابھی تو راحت و آسائش اور عیش و عشرت کا وقت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی موت کو ہمیشہ نزدیک تصور کرتا ہے وہ ہر حالت میں

آخرت کی بہتری کے لئے تدبیریں بھی کرتا رہتا ہے۔ آنحضرتؐ نے ابن عمرؓ سے فرمایا کہ صبح اٹھو تو یوں نہ سمجھو کہ شام تک ضرور زندہ رہو گے اور شام کو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ صبح کو زندہ ہی اٹھو گے۔ ایک مرتبہ جناب اُسامہؓ نے ایک ماہ کے لئے کوئی چیز اٹھی خرید لی۔ حضورؐ نے سنا تو فرمایا کہ اُسامہ سے کچھ بعید نہیں کیونکہ وہ لمبی چوڑی زندگی کی امیدیں باندھے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں جب پلک جھپکتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید آنکھ نہ کھول سکوں اور مر جاؤں اس طرح جب آنکھ کھولتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید اب جھپکنے کی نوبت نہ آئے۔

۹۹۔ زندگی کا آخری میدان

ابوموسیٰ اشعریؓ نے آخری عمر میں حد درجہ کی ریاضت اور مجاہدہ شروع کر دیا تھا جو ان کی عمر اور ضعفی کے اعتبار سے بہت شدید اور سخت تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس محنت اور تکلیف میں کچھ کمی کر دیجئے۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا دوڑنے کو ہر جگہ دوڑتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب میدان جنگ میں دوڑتا ہے تو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ میری عمر کا بھی آخری میدان ہے اور موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی ہے پھر اگر ریاضت و مجاہدہ میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟

۱۰۰۔ موت کی تین طرح یاد

جاننا چاہئے کہ موت کا یاد کرنا بھی تین طرح کا ہوتا ہے ایک جانفلوں کا طریق ہے کہ دنیا میں سر تاپا مستغرق ہوتے ہیں اور موت کو یاد کر کے اس سے کراہت و نفرت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہ خوف دائمگیر ہوتا ہے کہ پیاری دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی۔ دوسرا انداز موت کو یاد کرنے کا وہ ہوتا ہے جو اہل توبہ اختیار کرتے ہیں۔

تائب موت اسی لئے یاد کرتے ہیں کہ خوف اُس پر زیادہ سے زیادہ حد تک غالب رہے اور وہ ہمیشہ توبہ و استغفار میں مشغول رہ سکے۔ تائب کو موت سے کراہت نہیں ہوتی بلکہ کراہت اس کے جلد آجانے پر ہوتی ہے کیونکہ زاوِ آخرت ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا ہوتا۔ تیسرا انداز ایک غارف کا انداز ہے۔ وہ موت کو اس لئے یاد کرتا ہے کہ دیدار حق کا وعدہ یہی ہے کہ موت کے بعد نصیب ہوگا۔ پھر وہ اس وقت کو فراموش کرے تو کیونکر جب اُسے دیدار دوست کی لذت نصیب ہوگی۔ پس وہ ہر وقت موت کا انتظار کرتا ہے۔

۱۰۱۔ تسلیم و رضا کا مقام

اور ایک درجہ ایسا بھی ہے جو مذکورہ بالا تینوں درجوں سے بھی بلند تر ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین درجہ ہی وہ ہے اس میں انسان کو موت سے نہ نفرت و کراہت ہوتی ہے اور نہ اس کی خواہش و انتظار۔ نہ اس کے جلد آجانے کی آرزو کرتا ہے اور نہ دیر سے آنے کا خواہشمند ہوتا ہے بلکہ وہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتا ہے اور اپنے اختیار سے یکسر علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے تسلیم و رضا کا مقام کہتے ہیں۔ اور یہ مقام جس کو حاصل ہوتا ہے اُسے موت یاد تو ضرور آتی ہے لیکن یوں بھی نہیں کہ ہر وقت ذہن پر مسلط رہے کیونکہ اُسے اس دنیا میں بھی مشاہدہ حق اکثر نصیب ہو جاتا ہے اور ذکر الہی اُس کے دل پر اس طرح غالب رہتا ہے کہ زندگی اور موت میں اُسے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا اور دے بھی کیسے جب کہ دل ہمہ وقت یاد الہی میں مستغرق اور محبت حق تعالیٰ میں ڈوبا رہتا ہے۔

کہاں تک حرص و شوقِ مالِ فانی؟
 اُٹھو ڈھونڈو متاعِ آسمانی
 کہاں تک جوشِ آمال و امانی
 یہ سو سو چھید ہیں تم میں نہانی
 تو پھر کیوں کر ملے وہ یار جانی
 کہاں غربال میں رہتا ہے پانی
 کرو کچھ فکر ملکِ جاودانی
 یہ مُلک و مال جھوٹی ہے کہانی
 بسر کرتے ہو غفلت میں جوانی
 مگر دل میں یہی تم نے ہے ٹھانی
 خدا کی ایک بھی تم نے نہ مانی
 ذرا سوچو یہی ہے زندگانی؟
 خدا نے اپنی رہ مجھ کو بتا دی
 فسحان الذی اخزی الاعادی
 درمیشین

اے حُبّ جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں
اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں
دیکھو تو جا کے اُن کے مقابر کو اک نظر
سوچو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر

اک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے
اک دن یہ صبحِ زندگی کی تم پہ شام ہے
اک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے
پھر دفن کر کے گھر میں تأسف سے آئیں گے

اے لوگو! عیشِ دنیا کو ہرگز وفا نہیں
کیا تم کو خوفِ مرگ و خیالِ فنا نہیں
سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے
کس نے بلا لیا وہ سبھی کیوں گذر گئے

وہ دن بھی ایک دن تمہیں یار و نصیب ہے
خوش مت رہو کہ کوچ کی نوبت قریب ہے
ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو

نفسِ دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو

درمبین